




رسول اکرم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖہ وَسَلَّمَ

کی 125 و صدستین



تألیف و تحقیق

ابو طلحہ

محمد اظہار الحسن محمود

رسول اکرم ﷺ کی 125 وصیتیں



رسول اکرم ﷺ

کی

125 وصیتیں

تألیف و تحقیق

ابو طلحہ

محمد اظہار الحسن محمود

فاضل و فاق المدارس

جملہ حقوق بحق مصنف محفوظ ہیں

نام کتاب	: رسول اکرم ﷺ کی ایک سو پچھیں و صیپیں
مصنف	: ابو طلحہ محمد اظہار الحسن محمود (فاضل و فاق المدارس)
صفحات	: (160)
ناشر	: مکتبہ الحسن، اردو بازار لاہور
باہتمام	: دینی کتب خانہ جوہر آباد
تعداد	: ایک ہزار
قیمت	: 70/- روپے
اشاعت	: ستمبر 2006 مطابق شعبان ۱۴۲۷ھ

ملنے کے پتے

☆ دینی کتب خانہ نزد مرکزی جامع مسجد بلاک نمبر 1 جوہر آباد (خوشاب) فون:

0454-722954

☆ مکتبہ سید احمد شہید اردو بازار لاہور ☆ مکتبہ قاسمیہ اردو بازار لاہور ☆ عمران اکیڈمی لاہور ☆ اسلامی کتب خانہ اردو بازار لاہور ☆ مکتبۃ العلم اردو بازار لاہور

☆ حکیم حافظ ابرار الحسن قبر 165 جبیب پارک، ملتان چوگنی شاپ، نزد میکنی، لاہور

☆ مکتبہ نعمانیہ، مدینی مسجد، مدرسہ عربیہ قادریہ، بحلوال ☆ شہزاد بک ڈپو، مین بازار جوہر آباد 7846298

بازار جوہر آباد

انساب

ہر اس خوش نصیب کے نام..... جو رسول اللہ ﷺ کی ذات
با برکات سے بچے دل سے پیار کرتا ہے اور..... جس کے
ذہن میں آپ ﷺ کی اطاعت کا شوق ہر وقت سایا رہتا
ہے۔ اور جو چاہتا ہے کہ کوئی اس کو نیکی کی بات کا پتہ دے
اور وہ اسے اپنی زندگی کا نصب العین بنالے۔

اور ہر ایسے سعادت مند کے نام..... جو حضور پاک ﷺ کا
نام نامی، اسم گرامی سن کر عقیدت و محبت سے درود شریف
پڑھتا ہے۔ اور جس کی آرزو ہے کہ وہ..... حرمتو رسول
ﷺ کی خاطر اپنی جان شارکر دے۔



فهرست

۳	انتساب
۱۲	تقریظ
۱۵	مقدمہ
۲۳	میرے خلیل نے سات چیزوں کی وصیت فرمائی
۲۲	اے معاذ اللہ عزیز! میں تمہیں یہ وصیت کرتا ہوں
۲۵	ایک خاص دعا کی وصیت
۲۶	نماز اور مأموریتوں کا خیال رکھنا
۲۶	اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ پھرانا
۲۷	تین اہم باتوں کی وصیت
۲۸	ہر بلند مقام پر اللہ کا نام بلند کرتے رہنا
۲۹	آپ ﷺ کے الوداع کرتے ہوئے وصیت فرمائی
۳۰	دس باتوں کی وصیت
۳۱	بہت سے نیک کاموں کی جامع وصیت
۳۳	خوش آمدید! اے طالبینِ علم!

۳۳ چار باتوں کی وصیت
۳۴ رُلادینے والی وصیت اور رقت آمیز خطبہ
۳۵ پانچ لاکھ میں سے پانچ احادیث کی وصیت
۳۶ اللہ تعالیٰ اور بندوں کی محبت کیسے حاصل ہو؟
۳۷ میرے صحابہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں اللہ سے ڈرو
۳۸ سچ کی برکت اور جھوٹ سے نفرت
۳۹ مظلوم کی آہ و بد دعا سے بچو!
۴۰ ایمان کی ناقدری سے بچنا
۴۱ ماں باپ یا غیر اللہ کی فتنمیں مت کھاؤ
۴۲ صدمہ پہنچتے ہی صبر کر جانا اصل صبر ہے
۴۳ پھر لوٹ کر دنیا میں کوئی نہیں آئے گا
۴۴ گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کی عادت بناؤ
۴۵ میری سنت سے منہ شہ پھیر لینا
۴۶ نرم خوبی اللہ کو بہت پسند ہے
۴۷ سفر پر جاتے ہوئے صحابی کو بہت پیاری نصیحت
۴۸ حدل کرنے والے بنوا
۴۹ حکمران اپنے ماتحتوں پر مظالم نہ ڈھائیں
۵۰ لوگوں سوا کس ضرور کیا کرو

۱.....	کسی کو گالی نہ دینا.....
۵۱.....
۵۲.....	کھانا ہمایے کے گھر بھونے کی وصیت
۵۳.....
۵۴.....	تقویٰ ہر چیز کی اصل اور جڑ ہے.....
۵۵.....
۵۶.....	غصہ نہ کیا کرو
۵۷.....
۵۸.....	خطا ہو جائے تو فوراً کوئی نیکی کرلو
۵۹.....
۶۰.....
۶۱.....
۶۲.....
۶۳.....
۶۴.....
۶۵.....
۶۶.....

- ۶۴ روزانہ استغفار کیا جائے۔
- ۶۵ دنیا و آخرت کی بھلائی اس میں ہے۔
- ۶۶ یہ دل کی سختی کا سبب ہے۔
- ۶۷ جنت میں اپنے حصے کا پودا الگا۔
- ۶۸ یہ خاص فرشتوں کی تسبیح ہے۔
- ۶۹ جب قرضہ اور دکھ کھیر لیں تو یہ پڑھنا۔
- ۷۰ اللہ پر ایمان رکھنے والا غور سے سنبھالو۔
- ۷۱ لوگو! استخارہ کی اہمیت جانو!
- ۷۲ فجر کی سنتیں کسی حال میں نہ چھوڑو۔
- ۷۳ پانچ عظیم پاتوں کی وصیت۔
- ۷۴ اس کے برابر کوئی عمل نہیں۔
- ۷۵ صدقہ آخرت کی ہولناکی سے بچائے گا۔
- ۷۶ میں تین چیزیں قسم کھا کر بیان کرتا ہوں۔
- ۷۷ میر امال کون سا ہے؟
- ۷۸ کون سا ہدیہ قبول کیا جائے؟
- ۷۹ دلوں کے بگاڑ کا ایک سبب۔
- ۸۰ ذور ان نماز آسان کی جانب دیکھنا۔
- ۸۱ دوستی کا معیار صحبو۔

رسول اکرم ﷺ کی 125 صیحتیں

۸۲	پھر دنیا تمہارا پچھہ نہیں بگاڑ سکتی	✿
۸۳	نفاق سے بچو!	✿
۸۴	سر شام پچوں کو باہر نہ نکلنے دو	✿
۸۵	وہ مجلس باعث حضرت رہے گی	✿
۸۶	ایک خاص دعا کی وصیت	✿
۸۷	دو آیات اور حفاظت از جمیع مصائب و آفات	✿
۹۰	آئیہ الکرسی کو اپنا معمول بناؤ	✿
۹۱	بستر جھاڑ کر سویا کریں	✿
۹۲	بُرا خواب کسی کے سامنے بیان نہ کیا جائے	✿
۹۳	جب کوئی مصیبت آپڑے تو یہ پڑھا کرو	✿
۹۴	ڈکھ اور بے قراری کے وقت یوں پڑھو	✿
۹۴	مچھلی والے پیغمبر کی عظیم دعا	✿
۹۵	جب کوئی مشکل امر پیش آئے تو	✿
۹۵	گھروں میں سورہ بقرہ پڑھنے کی وصیت	✿
۹۶	وہ شخص کیوں نہیں ڈرتا	✿
۹۶	فوت شدہ لوگوں کو برانتہ کہا کرو	✿
۹۷	احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرنے والا	✿
۹۷	عبادت اتنی ہو کہ جس پر دوام ہو سکے	✿

99	سات کام کرو سات چیزوں سے اجتناب کرو
98	نجات کس چیز میں ہے؟
99	کمزوروں اور حاجت مندوں کا خیال رکھنا
100	آسائشوں میں نہ پڑ جانا
100	اللہ کی راہ میں بے حساب خرچ کیا کرو
103	اگر رات میں سفر سے لوٹو تو
103	رشته کا انتخاب دینداری کی وجہ سے کیا کرو
105	اجھے لوگوں کی ہم نشینی اختیار کرو
105	اختلافات سے بچو!
106	اپنے بھائی کو ظلم سے روکو!
107	ناحق کسی کی زمین پر قبضہ جمانا
109	خدمت گاروں کا حق بھی ادا کرنا
109	اے مسلم خواتین! غور سے سنو!
110	پانچ باتوں پر کون عمل کرے گا؟
111	یہ میری امت کے لیے سخت فتنہ ہیں
113	اپنے لیے اعمال صالح کا ذخیرہ کرلو
113	اللہ سے ہی مانگو
115	یہ تین خوبیاں رکھنے والا شخص جنتی ہے

رسول اکرم ﷺ کی 125 وصیتیں

- ۱۰ دشمن سے ٹکرائی کی دعا ملت کرو *
- ۱۱۵ میرا نام اور گنیت جمع نہ کرنا *
- ۱۱۶ ﴿ محمد نام رکھنے کی برکات ﴾ *
- ۱۲۰ آج ہر ظلم کی تلافی کا موقع ہے *
- ۱۲۱ اولاد میں عدل کیا کرو *
- ۱۲۳ عورت بغیر محرم کے سفر نہ کرے *
- ۱۲۴ لوگو! پانچ چیزوں سے پہلے فضیلت جانو! *
- ۱۲۵ ہر صاحب حق کا حق پورا پورا ادا کرو *
- ۱۲۶ سات ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو! *
- ۱۲۷ بھلانی کا بدلہ دیا کرو *
- ۱۲۸ شیطانی را ہوں پر نہ چلو! *
- ۱۲۹ دل میں کسی کے لیے کینہ نہ رکھو! *
- ۱۳۰ بھلانی کے چند کاموں کی وصیت *
- ۱۳۱ لوگوں سے مہربانی سے پیش آو *
- ۱۳۲ باہم بھائی بھائی بن جاؤ! *
- ۱۳۳ نوجوانوں کو حیا قائم رکھنے کی وصیت *
- ۱۳۴ بڑھاپے میں شوق علم رکھنے والے کو وصیت *
- ۱۳۵ روزانہ بدن کے ہر جوڑ کے پدالے صدقہ کیا کرو *

رسول اکرم ﷺ کی 125 وصیتیں
فراکٹ میں کوتاہی کی حضورت درست نہیں	۱۳۶.....
کیرہ گناہوں سے بھی بڑے گناہ	۱۳۸.....
ایک صحابیہ کو گھر میں نماز پڑھنے کی وصیت	۱۳۹.....
وہ مجلس باعث حسرت رہے گی	۱۳۹.....
ایک توجہ طلب ہات	۱۴۰.....
ایک بہت قیمتی درود شریف	۱۴۱.....
پانچ اعمال کی وصیت	۱۴۲.....
اپنے اندر بخشش کی چاہت پیدا کرو	۱۴۳.....
زیادہ فضیلت والا استغفار	۱۴۵.....
نسل انسانی کے لیے سب سے زیادہ پُر اثر وصیت	۱۴۷.....
خطبۃ حجۃ الوداع	۱۴۸.....
آخری پاکمال وصیت	۱۵۵.....
مراجع و مصادر	۱۵۹.....



تفویظ

صاحب فصاحت و فقاہت حضرت مولانا قاری قیام الدین الحسینی دامت
فیوضہم

مُبْشِّلًا وَمُحَمَّدًا وَمُصَلِّيَا وَمُسَلِّمًا
اما بعد!

یوں تو حقیقت اور سچائی پر شامل بڑوں کی وصایا اور تاکیدی ہدایات کو دانا لوگ ہمیشہ اہمیت دیتے اور وری جان بناتے آئے ہیں اس کے ساتھ جس وصیت و تاکیدی ہدایت کی نسبت جتنی بڑی شخصیت کی طرف ہو وہ اتنی ہی مہتمم بالشان ہوتی ہے اور اس سے غفلت و بے احتنائی اسی قدر غیر مستحسن اور ناپسندیدہ تصور کی جاتی ہے۔ ہر عاقل و بالغ شخص وصیت اسی چیز کی کرتا ہے جو اس کی نظر میں غیر معمولی اور وقیع ہوتی ہے۔

لاق فرزند اپنے پدر شفیق، ہونہار شاگرد اپنے کرم فرما استاذ، اور دانا مرید اپنے مصلح و مرتبی کے تاکیدی حکم اور وصیت کو نظر انداز کرنا شفاوت و بد بختی خیال کرتا ہے۔ اور اسی حوالہ سے اپنے سر پرست بزرگ کو قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ پھر بھلا سرور کائنات فخر موجودات، سید الاولین والآخرین سیدنا و مولانا محمد بن علیؑ جو اللہ کی ساری مخلوق سے بزرگ و برتر اور اشرف و اعلیٰ ہیں..... کی موقع

رسول اکرم ﷺ کی 125 صیتیں

بموقع ، قدم بقدم فرمائی ہوئی وصایا اور ہدایات کا کیا کہنا ، عظمت و ضرورت کے پیش نظر اساطین علم اور جبال فہم و دانش نے انہیں سطور و صدور میں محفوظ رکھا اور طبقاتِ امت تک پہنچایا ، کون نہیں جانتا کہ وہ وصایا اور تاکیدی احکام قیامِ امن و امان ، فلاجی معاشرہ کی تشکیل ، عدل و انصاف کے نفاذ اور انسانیت کی ترقی و عروج کی خامن ہیں ۔

کتنے خوش بخت تھے وہ نفوس جو انہیں اپنا کر دنیا و آخرت کی کامیابی و کامرانی پا گئے ۔ جن کی غبارہ راہ امت مسلمہ کی آنکھوں کا سرمه ہے اور ان کے نقوش پا کے سامنے کبھار امت کی پیشانی جھکتی ہے بقول حضرت سید امین گیلانی مرحوم ۔ ۔ ۔

سجدہ کئے بغیر گزرتا نہیں امین
مجھ کو جہاں بھی ان کا کاف پا دکھائی دے

لسانِ ثبوت سے پھوٹنے والی اور مشکلوٰۃ رسالت سے ظاہر ہونے والی ایمان افروز وصایا اور موکّد ہدایات جو انسانی زندگی کے ہر شعبہ سے متعلق ہیں سے انحراف اور تغافل کے نتیجہ میں امت مسلمہ بحیثیتِ مجموعی جس زیوں حالی ، زوال و انحطاط اور شکست و ریخت کا شکار ہے وہ اہل نظر سے پوشیدہ نہیں ۔ یہود و نصاریٰ کی انہیٰ تقلید و نقای ، اسلام دشمن طاغوتی طاقتوں کی ہر قدم پر غلامی کی وجہ سے آج مسلم اُمّہ تباہی و بر بادی کے دھانہ پر کھڑی ہے کاش ہم عوامل و اسباب پر غور و فکر کر کے اپنی اصلاح کا سوچتے اور دشمنانِ اسلام کی غلامی کا طوق گردن سے اسماں پھینکتے ۔ ۔ ۔

تو جب سے حلقہ گوش شہ امم نہ رہا

نگاہِ دو عالم میں محترم نہ رہا
 رحمۃ اللّٰہ علیہمین، شفیع المذہبین مسیح بن یہودیہ کی وہ وصایا اور عظیم الشان ہدایات
 حدیث کی سینکڑوں کتابوں میں پوشیدہ اور بکھری ہوئی ہیں باری تعالیٰ اپنی
 شایان شان انعام سے نوازے ہمارے برادر محترم، فاضل جلیل حضرت مولانا
 اخٹھار الحسن محمود صاحب زید مجدد ہم کو، جنہوں نے کتب احادیث اور اکابر اسلام کے
 رسائل و مقالات سے حتی الامکان یہ جواہر پارے ملنقط کر کے قارئین کرام کے
 سامنے ایک حسین گلدستہ کی شکل میں پیش کر دیئے ہیں - اب دیکھئے کونے خوش
 بخت جامِ رسول کی طرف ہاتھ بڑھاتے اور مشامِ جاں کو معطر کرتے ہیں

یہ بزم مے ہے یاں کوتاہ دستی میں محرومی

جو بڑھ کر خود اٹھا لے ہاتھ میں مینا اسی کا ہے

مولانا صاحب ایک صاحب ذوق عالم ہیں اور دامنا مطالعاتی گردش میں
 رہتے اور دوسروں کو علمی مشاغل میں متھر کر کھنے میں راحت محسوس کرتے ہیں -
 اللہ تعالیٰ ان کی اس علمی و روحانی کاوش کو قبول فرمائے اور ان کے فیض سے زیادہ
 سے زیادہ امت کو متنقتع فرمائے - اور راقم السطور کو بھی اپنی رضاۓ پر چلنا نصیب
 فرمائے - آمین یا رب الحلمین بجاہ سید المرسلین صل علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین -

فیض الدین الحسینی

مدیر مدرسہ اشرفیہ فیض القرآن

پنڈ دادنخان (جہلم)

۲۶ اگست ۲۰۰۶ء

مقدّمه

ایک آدمی نے بارگاہِ رسولت میں حاضر ہو کر عرض کی : اے اللہ کے رسول ﷺ ! مجھے کچھ وصیت فرمائیے ! آپ ﷺ نے فرمایا : کسی کو گالی مت دینا..... وہ بتایا کرتے تھے کہ اس کے بعد انسان کو تو کیا میں نے کسی اونٹ یا بھیڑ بکری وغیرہ جانور کو بھی کبھی گالی نہیں دی۔ سبحان اللہ ! یہ صحابہ حضور ﷺ کے ارشادات کے کتنے قدر داں تھے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آقائے دو عالم محمد رسول اللہ ﷺ کی ان مبارک وصیتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاه سید المرسلین آئیے ! یہ بھی تو دیکھیں کہ وصیت کے کہتے ہیں ؟

جیسا کہ مشہور و متدائل ہے کہ مرنے سے پہلے انسان جو تاکیدی بات یا نصیحت کرے صرف اسے ہی وصیت کہا اور سمجھا جاتا ہے۔ لفظ وصیت کا صحیح اطلاق کیا ہے ؟ آئیے ہم اس کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی سے استفادہ کرتے ہیں۔ اور صحیح بات کے سمجھنے کے لیے فکر و تدبر کے آئینے میں نظر کشادہ کرتے ہیں۔

واضح ہو کہ عربی زبان میں کسی کام کا عہد لینے یا کسی کام کا حکم دینے کو وصیت کہتے ہیں اور اس میں شفقت و محبت اور خیرخواہی کا جذبہ غالب ہوتا ہے اور

رسول اکرم ﷺ کی 125 وصیتیں

یہ لفظ صرف مرنے والے کے ساتھ لازم نہیں ہے جیسا کہ عموماً سمجھا جاتا ہے۔ اسے یوں سمجھتے کہ جب اللہ تعالیٰ، حی و قیوم کے لیے وصیت کا لفظ استعمال ہو تو اس کا مفہوم بندوں کی خیرخواہی، گہری ہمدردی اور فلاح و نجات کے لیے کوئی حکم دینے یا اپنے بندوں سے نیکی اور بخلائی کا کوئی عہد لینا مقصود ہوتا ہے۔ جیسا کہ سورہ نساء پارہ پانچ / آیت ۱۲ کے ابتدائی الفاظ ہیں **يُوصِّيْكُمُ اللَّهُ فِيْ أَوْلَادِكُمْ** اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے۔ تو یہاں وصیت کے معنی جمیع مفسرین نے حکم کے کیے ہیں۔ اور یہی صحیح ہیں۔

اور جب اس کا استعمال صرف بندوں کے لیے ہو تو خیرخواہی کا حکم دینے یا اس کا عہد لینا بھی متصور ہوتا ہے اور مرنے سے پہلے اپنے مال و اولاد وغیرہ کے بارے میں کوئی تاکید بھی مرادی جاتی ہے۔ جیسا کہ اسی آیت کے آخر میں آیا ہے **مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصِيْ بِهَا أَوْدِينْ** تو گویا ایک ہی آیت میں حکم کے معنی میں بھی اور وصیت کو وصیت کے مروجہ معنی میں بھی استعمال کیا گیا ہے۔

تو معلوم ہوا کہ لفظ وصیت کا اطلاق اولاً تو حکم دینے اور عہد لینے کے لیے اور مثاثیا مرنے والے کی آخری تاکیدی پاتوں پر عمل کرنے پر ہوتا ہے۔

اس کتاب میں درج کی گئی حضور نبی کریم ﷺ کی وصایا بھی اسی قبیل سے ہیں جن کا مقصد امت کو راحت پہنچانا، ناکامی سے بچانا، بُری راہوں سے روکنا اچھے اور پسندیدہ اعمال کے اختیار اور جمیع امور میں اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری کر کے دنیا و عقبی میں سرخروئی پالینا ہے۔ جیسا کہ ارشاد ربانی ہے **ذَالِكُمْ وَصْكُمْ يَهْ لَعْلَكُمْ تَذَكَّرُونَ** - انعام / 153

رسول اکرم ﷺ کی 125 صیحت

”اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان باتوں کی وصیت کی ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو۔“

مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حبیبہ حبیب کائنات، سیدہ عائشہؓ فرماتی ہیں کہ مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ مَلِئَةً دِيْنَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَلَا شَاهَةً وَلَا بَعْيرًا وَلَا آوْصَى بِشَيْءٍ رسول اللہ ﷺ نے درہم و دینار اور اونٹ بکریاں اپنے ترکے میں نہیں چھوڑیں اور نہ ہی ان کی کوئی مالی وصیت فرمائی۔

تو گویا آپ ﷺ کی وصیت یہی آپ کے ارشاداتِ عالیہ ہیں جو کہ پوری انسانیت کے لیے دنیا و آخرت کی دائیٰ کامرانی کا تینی ذریعہ ہیں۔

بخاری شریف، باب خطبة ایام منیٰ کے ذیل میں سیدنا ابن عباسؓ سے طویل حدیث مروی ہے جس کے آخر میں ہے قال ابن عباسؓ کَوَالَّذِي نَفِيَ بِيَدِهِ إِنَّهَا لَوَصِيتُهُ إِلَى أُمَّتِهِ (سیدنا ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے یہی احکام آپ ﷺ کی امت کے حق میں آپ کی وصیت ہیں۔)

اب دوسرا پہلو بھی ملاحظہ فرمائیے کہ رسول دو عالم، محبوب مکرم، سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ اپنی امت کے لیے کس قدر شفیق و رحیم تھے آپ کی وصایا امت کے حق میں کتنی شفیقانہ اور رحیمانہ ہوں گی۔ یہ سوچ اپنی دل کشی کی وجہ سے عمل پر ابھارتی ہے۔ اسی شفقت کا ایک منظر حدیث شریف کے حوالہ سے ملاحظہ کیجئے!

حضرت نعمن بن بشیرؓ نے ایک روز منبر پر بیٹھے ہوئے دوران خطبہ فرمایا کہ میرے ابا نے مجھے اپنے مال میں سے کچھ مال دیا۔ میری ماں نے کہا: لا۔ آرڈی ختنی تَشَهَّدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تم جب تک اس

مال پر رسول اللہ ﷺ کو گواہ نہ ٹھہراو میں خوش نہیں ہوں گی نہ مجھے اطمینان ہوگا۔
میرے ابا جان رسول اکرم ﷺ کے پاس گئے کہ آپ اس پر گواہ ہو
جائیں کہ میں نے نعمان کو یہ مال دے دیا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: **اعطیت سائِرَ وَلَدِكَ مِثْلٌ هُذَا** کیا تم نے اپنی ساری اولاد کو اسی قدر دیا ہے؟ انہوں نے
کہا نہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا: ”اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اولاد کے درمیان عدل
کرو۔“ تو میرے والد نے مجھ سے وہ مال لوٹا لیا۔ یعنی جو مجھے دے رہے تھے وہ نہ
دیا۔ بخاری شریف، کتاب الہبہ۔

نیز مسلم شریف کے الفاظ بڑے چھنجھوڑنے والے ہیں..... حضور ﷺ نے فرمایا: **فَلَا تُشْهِدُنِي إِذَا فَاتَنِي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ** جب تم اپنی ساری اولاد
کو برابر نہیں دے رہے تو مجھے بالکل اس معاملے میں گواہ نہ بناؤ..... میں کسی ظلم پر
گواہ نہیں بنتا چاہتا۔ فتح الباری بشرح صحیح البخاری میں کتاب الفرائض کی ابتداء میں
مسلم شریف کی اس حدیث پاک کے حوالہ سے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے جو
کہ لاکن توجہ ہے **وَاضْبَافُ الْأَوْلَادَ إِلَيْهِمْ مَعَ أَنَّهُ الذِّي أَوْصَى بِهِمْ،**
إِشَارَةً إِلَيْهِ أَنَّهُ أَرْحَمُ بِهِمْ مِنْ آبَانَهُمْ - (باب قول الله تعالى يوصيكم
الله في اولادكم)

کہ سیدنا نعمان بن بشیر رض کے والد کو جو فرمایا کہ سب بیٹوں کو کیا تم
نے اسی جتنا مال دیا ہے اس میں اولاد کی اضافت کرنا اور ان کے حق میں بھی وصیت
کا کہنا یہ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ جس قدر والدین اپنی اولاد پر شفیق ہوتے
ہیں آپ ﷺ اس سے بڑھ کر امت کے افراد کے حق میں شفیق و رحیم ہیں۔

رسول اکرم ﷺ کی 125 صیغہ کی
یاد رہے کہ لوگوں کو مر وجہ رسوم سے، آبائی شرک پرستیوں سے اور دیگر مکرات سے
روکنا ایک بہت بڑا کام ہے لیکن یہ کام اپنے اندر نبوی مزاج کی مطابقت چاہتا ہے
لب و لجھ اور انداز کی نرمی اور اندر و فی شفقت و رأفت کا متقاضی ہے اور یہی ہر
نبی و رسول کی دعوت کا منبع اور طریقہ ہے۔ آپ ﷺ نے بھی نرم لب و لجھ اور
خاص شفقت و ہمدردی سے قوم کو جو دعوت دی اس کے اثرات کی ایک جھلک
سیرت ابن ہشام کے حوالے سے ملاحظہ فرمائیے.....

حضرت جعفر طیار ؓ، جب شہ کے باڈشاہ اصحاب نجاشی کے سامنے تقریر فرما
رہے ہیں اور عصر جاہلیت کی وحشت اور اسلامی قدرؤں کی دل آویزی اور خوبی
سے روشناس کر رہے ہیں..... یہ تقریر جامعیت بیان کا ایک حسین شہ پارہ، ادب
عربی کا خوبصورت گلہستہ اور تاریخ اسلام کی ایک قیمتی دستاویز بن گئی۔ اس کا
ابتدائی حصہ کچھ یوں ہے.....

اَيُّهَا الْمُلْكُ ! كَنَا قَوْمًا أَهْلَ جَاهْلِيَّةً ، نَعْبُدُ الْاَصْنَامَ ، وَنَأْكُلُ
الْمَيْتَةَ ، وَنَأْتَى الْفَوَاحِشَ وَنَقْطِعُ الْاَرْحَامَ ، نَسْنَى الْجَوَارَ وَيَاكِلُ الْقَوْى
مِنَ الْضَّعِيفِ ، فَكَنَا عَلَى ذَالِكَ ، حَتَّىٰ بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْنَا رَسُولًا مِّنْهُنَا ،
نَعْرَفُ نَسْبَهُ وَصَدْقَهُ وَامانَتَهُ وَعَفَافَهُ ، فَدَعَانَا إِلَى اللَّهِ لِتَوَحِّدَهُ وَنَعْبُدَهُ ،
وَنَخْلِعَ مَا كَنَا نَعْبُدُ تَحْنَ وَأَبَاؤُنَا مِنْ دُونِهِ مِنَ الْحِجَارَةِ وَالْأَوْثَانِ وَمِنْ نَا
بَصْدَقِ الْحَدِيثِ ، وَادَاءِ الْاِمَانَةِ ، وَضَلَّةِ الرَّحْمَمِ ، وَحَسْنِ الْجَوَارِ ،
وَالْكَفِ عنِ الْمُحَارَمِ وَالْدَّمَاءِ ،
وَنَهَا نَا عَنِ الْفَوَاحِشِ وَقُولِ النَّزُورِ وَأَكْلِ مَالِ الْيَتَيمِ وَقَدْفِ

المحصنات ، وامرنا ان نعبد الله وحده لا شرک به شيئاً ، وامرنا بالصلاۃ والزکاۃ والصیام فصدقناه واما به واتبعناه علی ما جاءه به من الله ، فعبدنا الله وحده فلم شرک به شيئاً ، وحرمنا ما حرم علينا ، واحللنا ما احل لنا ، فعدا علينا قومنا ، فعذبونا وفتونا عن دیننا ، ليردونا الى عبادة الاوثان من عبدة الله تعالى وان نستحل ما كنا نستحل من الخبائث ، فلما قهروننا ، وظلمونا او ضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين دیننا ، خرجنا الى بلادک ، واحتربنا کے علی من سواک ، ورغباً فی جوارک ، ورجونا ان لا نظلم عندک ایها الملک!

(السیرة النبویہ لا بن هشام 1/336)

اس زریں تحریر کی سنہرے الفاظ کا خوبصورت ترجمہ ملاحظہ

فرمائیے

اے بادشاہ!

ہم جاہل تھے ، بتوں کی عبادت کرتے تھے ، مردار کھاتے تھے ، بے حیائیوں کے مرتکب ہوتے تھے ، قرابتوں کو قطع کرتے تھے ، پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے تھے ، قوی ضعیف کو کھا جاتا تھا ، ہم جاہلیت کی اسی وحشت کا شکار تھے کہ اللہ نے ہم ہی میں سے ایک پیغمبر مبعوث فرمایا ، ایسا پیغمبر کہ جس کا حسب اور جس کا نسب ، جس کا صدق اور جس کی دیانت ، جس کی امانت اور جس کی عفت سب سے ہم خوب واقف ہیں ۔

اس نے ہمیں توحید ربانی اور عبادتِ الہی کی دعوت دی ، ہم اور ہمارے

آباء و اجداد جن بے جان پھروں اور بتوں کی پرستش کیا کرتے تھے ان سب کو بالکل یہ چھوڑ دینے کی ہدایت کی، بات کی سچائی اور امانت کی ادائیگی، اپنوں کے ساتھ حصہ رحمی اور پڑاویوں کے ساتھ حسن سلوک، حرام کاموں سے رکنے اور فساد و خوزیزی سے بچنے کا حکم دیا، بے حیائی سے ہمیں روکا، ناحق بات کہنے کی ممانعت فرمائی، میتم کمال کھانے سے منع کیا، پاک دامن پر تہمت سے بچنے کی تاکید کی اور ہمیں حکم دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، صرف اسی کی عبادت کریں اور نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں اور روزہ رکھیں۔

چنانچہ ہم نے ان کی تصدیق کی، ان پر ایمان لائے اور اللہ کی جانب سے وہ جو کچھ لے کر آئے اس کی پیروی کی، سواب ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، شرک سے بچتے ہیں، حلال ہی کو حلال بھختے ہیں اور حرام سے رکتے ہیں اس وجہ سے ہماری قوم ہماری دشمن بن گئی اس نے ہمیں تکلیفیں دیں اور ہمیں اپنے دین کے بارے میں طرح طرح کی آزمائشوں میں ڈالا، وہ چاہتی ہے کہ ہم پھر سے بے جان بتوں کی عبادت شروع کر دیں۔ پھر سے خبائث کو حلال بھخنے لگیں اور ایک بار پھر اس گمراہی میں مبتلا ہو جائیں۔ اور جب انہوں نے ہم پر ظلم و ستم کے پھاڑ ڈھائے، زمین ہم پر نگ کر دی، ہمارے اور ہمارے دین کے درمیان حائل ہونے لگے تو ہم آپ کے ملک کی طرف نکل پڑے آپ کی ہمسایگی میں رغبت محسوس کی اور سب کو چھوڑ کر آپ کی جانب نکل آئے کہ آپ کے ہاں ہم پر کوئی مظلوم نہیں توڑے جائیں گے۔

نقل از کشف الباری، کتاب المغازی، صفحہ: ۲۵)

یاد رہے! اس دورِ جدید کی جہاتیں، اور نافرمانیاں، اللہ کے قرآن اور نبی ﷺ کے فرمان سے ہی دور کی جاسکتی ہیں اسی لیے آپ ﷺ کی وصیتوں کے نام سے نیکی کی چند تاکیدی باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ جن میں سے تو بعض میں بطور خاص یہ الفاظ اُوصِیْک، اُوصِیْکم، اُوصَانِیْ خَلِیْلِی بھی شامل ہیں اور کئی احادیث میں ایسے الفاظ تو نہیں لیکن ان کا پھرایہ اور اسلوب پیان تقریباً اسی سانچے میں ڈھلا ہوا ہے۔

اپنے قارئین سے میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ اس کتاب کو پہلے خود فکر و تدبیر سے پڑھ کر عمل کیلئے کمر بستہ ہو جائیں اور پھر اپنے احباب و متعلقین تک اسے ضرور پہنچائیں تاکہ نیکی کی اس دعوت میں، آپ بھی میرے ساتھ برابر کے شریک ہو جائیں۔

آخری بات یہ ہے کہ اس میں اگر کوئی خوبی ہے تو وہ میرے اللہ کا کرم ہے اور اگر کوئی کوتا ہی اس میں ہوئی تو وہ میری خطا لائق عفو و کرم ہے۔

ابوظہب

محمد اظہار الحسن محمود

مرکزی جامع مسجد بلاک نمبر 1 جوہر آباد

0454-722954



① میرے خلیل نے مجھے سات چیزوں کی وصیت فرمائی

آقائے عرب و جم حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کے پیارے صحابی سیدنا ابوذر
ؑ فرماتے ہیں کہ میرے خلیل، میرے آقارحمۃ للعالمین ﷺ نے مجھے ان
سات اہم چیزوں کی وصیت فرمائی :

● بِحَثٍّ الْمَسَاكِينُ وَأَنْ أَدْنُوا مِنْهُمْ

مساکین سے محبت کروں اور ان کے پاس بیٹھوں۔

● وَأَنْ أَنْظُرَ إِلَيْيَ مَنْ هُوَ أَسْفَلُ مِنِّي وَلَا أَنْظُرَ إِلَيْيَ مَنْ هُوَ فَوْقَ مِنِّي
(دنیا داری کے معاملات میں) اپنے سے غریب کو دیکھوں اپنے بے
مالدار کی جانب نہ دیکھوں۔

● وَأَنْ أَحِلَّ رَحِيمًا وَأَنْ جَفُوِيًّا

اور میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صدر حجی کروں چاہے وہ میرے ساتھ
چفا کریں۔

● وَأَنْ أُكْثِرَ مِنْ قَوْلٍ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

اور میں لا حoul ولا قوۃ الا باللہ کثرت سے پڑھا کروں۔

● وَأَنْ أَنْكَلِمَ بِمُرِّ الْحَقِّ

رسول اکرم ﷺ کی 125 صیتیں

اور ہر حال میں حق کہوں گرچہ لوگوں کو کڑوا لے
وَلَا تَأْخُذْنِي فِي الْلَّهِ لَوْمَةً لَآتَيْتُمْ
اور اللہ کی اطاعت کے بارے میں کسی کی ملامت خاطر میں نہ لاؤں
وَأَنْ لَا أَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئًا
اور میں لوگوں سے سوال کرنے سے باز رہوں۔

مند احمد

۱۰۱ اے معاف! میں تمہیں یہ وصیت کرتا ہوں

نبی کریم ﷺ کے پیارے شاگرد، حضرت معاف بن جبل ؓ روایت فرماتے ہیں کہ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ نے میرا ہاتھ پکڑ کر ارشاد فرمایا:

((يَا مُعَاذُ أَوَاللَّهِ أَتَيْتُ لَأْحِبْكَ، فَقَالَ لَهُ مُعَاذٌ : بِأَبِي أُنْثٍ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا أَوَاللَّهِ أَحِبْكَ: قَالَ أُوْحِسِنْكَ يَا مُعَاذُ لَا تَدْعُنَ هُنْ دُبُرُ كُلِّ صَلَاةٍ أَنْ تَقُولَ :اللَّهُمَّ أَعِنْنِي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ))

اے معاف! بخدا میں تم سے محبت کرتا ہوں، حضرت معاف ؓ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول ﷺ! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اللہ کی قسم! مجھے بھی آپ سے بہت محبت ہے۔ پھر آپ ﷺ نے فرمایا: اے معاف! میں تجھے یہ وصیت کرتا ہوں کہ کسی بھی نماز کے بعد یہ دعا نہ چھوڑنا۔

((اللَّهُمَّ أَعِنْنِي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ))
ترجمہ: اے اللہ! اپنا ذکر کرنے اور شکر بجا لانے میں اور اپنی عبادت
کرنے میں تو میری مدد فرماء!

..... ابو واؤ دشیریف، کتاب الورز

فائدہ: اس سعادت اور خوش بختی کا کیا کہنا کہ رسالت ماب ﷺ اپنے شاگر،
اپنے صحابی، سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ کو اللہ کی قسم کھا کر فرمائے ہیں کہ میں تم سے محبت کرتا
ہوں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم تو اپنے آقامدنی کریم ﷺ سے محبت کرتے ہی تھے..... لیکن
یہاں حضور ﷺ فرمائے ہیں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ! حضور
ﷺ کی تربیت اور فیضِ محبت سے اللہ نے صحابہ کا مقام کس قدر بلند فرمادیا۔ وہیا
کی نظر میں ان کے رب نے بڑھادیے اور اپنے ہاں سے خوشنودی اور رضا کے
پرواز نبھی انہیں عطا فرمادیے۔

۳ ایک خاص دعا کی وصیت

رحمت للعالمین، سید المرسلین حضرت محمد رسول اللہ ﷺ نے اپنی لختہ جگر،
نور چشم، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہما سے ایک روز فرمایا: میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ صبح و شام
یہ دعا پڑھا کرو.....

((يَا حَسِّيْ يَا قَيْوُمُ بِرَحْمَتِكَ آسْتَغْفِيْ ، أَصْلِحْ لِيْ شَأْنِيْ كُلَّهُ وَلَا
تَكْلِيْنِيْ إِلَى نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْنِيْ))

ترجمہ: اے ہمیشہ سے زندہ، اور قائم رہنے والے! میں تیری رحمت کے

رسول اکرم ﷺ کی 125 صیتیں
سہارے فریاد کرتا ہوں۔ تو میرے سارے کام سنوار دے اور پلک
جھپکنے کے برابر بھی مجھے میرے نفس کے پردہ کرنا۔

..... متدرک حاکم

۳ نماز اور ماتحتوں کا خیال رکھنا

چوتھے خلیفہ راشد سیدنا علی المرتضیؑ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے
اپنی امت کو سب سے آخر میں جو وصیت فرمائی..... اس کے الفاظ یہ ہیں:.....
((الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ إِقْوُا اللَّهَ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ))
اے افراد امت! نماز کا خیال رکھنا، نماز کو ہر حال میں قائم رکھنا۔ نیز
فرمایا: اپنے ماتحتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔
..... ابو داود شریف، کتاب الادب

۵ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراانا

حضرت ابو الدراءؓ بیان فرماتے ہیں کہ میرے آقا، میرے خلیل
حضرت محمد ﷺ نے مجھے ان باتوں کی وصیت فرمائی:.....
● آنَ لَا تُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَإِنْ قُطِعْتَ أَوْ حُرِّقْتَ
تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراانا چاہے تیرے گلڑے کر
دیے جائیں چاہے تجھے آگ میں جلا دیا جائے۔
● وَلَا تَتَرُكْ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ

بَوَئِثْ مِنْهُ الدِّمَةُ -

فرض نماز جان بوجھ کرنہ چھوڑنا جو آدمی جان بوجھ کر اسے چھوڑ دے اللہ کا ذمہ اس سے اٹھ جاتا ہے۔

وَلَا تَشْرَبَ الْخَمْرَ فَإِنَّهَا مُفْتَاحٌ كُلِّ شَرٍّ

اور تو شراب نہ پینا بے شک وہ تو ہر برائی کی جڑ ہے۔

ابن ماجہ، کتاب الفتن

۶ تین اہم باتوں کی وصیت

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ.....

((أَوْصَانِي خَلِيلِي بِشَلَاثٍ))

میرے کریم و خلیل آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ نے مجھے تین باتوں کی وصیت فرمائی:.....

صَوْمٌ ثَلَاثَةٌ أَيَّامٌ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ

ہر ماہ تین دنوں کے روزے رکھنا۔

وَالْوِتْرٌ قَبْلَ النَّوْمِ

اور سونے سے پہلے وتر ادا کر لینا۔

وَالْفُسْلِ يَوْمُ الْجُمُعَةِ

اور جمعۃ المبارک کے دن غسل کرنا۔

مند احمد

رسول اکرم ﷺ کی 125 وصیتیں

بخاری شریف کی حدیث پاک کے مندرجہ ذیل الفاظ ہیں۔ جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک موقع پر تو ان الفاظ میں اور کسی دوسرے موقع پر آپ ﷺ نے انہیں مندرجہ بالا اعمال کی وصیت فرمائی ہوگی۔

((أَوْصَانِي خَلِيلِيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَدْعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ
صَوْمَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِّنْ كُلِّ شَهْرٍ وَصَلَاةُ الصُّحْنِي وَنَوْمٌ عَلَى
وِتْرٍ))

میرے خلیل سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ نے مجھے وصیت فرمائی کہ ان کاموں کو موت تک کرتا رہوں بالکل نہ چھوڑوں ہر ماہ تین دن کے روزے رکھنا ॥ نماز چاشت ادا کرنا ॥ وتر ادا کر کے سونا۔

..... بخاری شریف

⑦ ہر بلند مقام پر اللہ کا نام بلند کرتے رہنا

سیدنا ابو هریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ ﷺ سے کہا یا رسول اللہ میں سفر کرنا چاہتا ہوں آپ مجھے وصیت فرمائیں آپ نے فرمایا.....

((عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالْتَّكْبِيرِ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ))

تجھے پر اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اور ہر بلند مقام پر چڑھتے وقت اللہ اکبر پڑھنا لازم ہے۔

جب وہ آدمی پیش پھیر کر چلا گیا تو آپ نے فرمایا.....

((اللَّهُمَّ اطْوِ لَهُ الْأَرْضَ وَهُوْ نَعْلَمُ عَلَيْهِ السَّفَرَ))

رسول اکرم ﷺ کی 125 وصیتیں

اے اللہ اس پر زمین کی درازی کو لپیٹ دے اور اس پر سفر کو آسان کر دے۔

.....ترندی شریف، مند احمد

سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب ہم بلند جگہ پر چڑھتے تو اللہ اکبر کہتے اور جب نشیبی جگہ اترتے تو سبحان اللہ کہتے۔ بخاری، داری

⑧ آپ ﷺ نے الوداع کرتے ہوئے وصیت فرمائی

حضرت مالک بن حويرث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں

(قَدِيمُنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ شَبَّهُ فَلَمَبِشَنَا عِنْدَهُ نَحْوًا مِنْ عِشْرِينَ كَلَةً وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجِيمًا)

ہم چند نوجوان ہم عمر بھی پاک ﷺ کے پاس (اپنے قبیلے میں سے علم سیکھنے کے لیے) آئے اور آپ ﷺ کے پاس تقریباً میں راتیں کھبرے۔ آپ ﷺ بہت زیادہ رحم دل تھے۔

آپ ﷺ نے ہمیں الوداع کہتے ہوئے فرمایا: جب تم اپنے قبیلے میں جاؤ تو انہیں یہ دین سکھانا اور انہیں نمازوں کے یہ اوقات بتا کر نماز پڑھنے کا حکم دینا، اور جب وقت نماز آجائے تو تم میں سے ایک شخص اذان کہے اور جو تم میں بڑا ہو وہ امامت کروائے۔

.....بخاری شریف، کتاب الایمان

فائدہ: علماء محمد شین نے بتایا ہے کہ اور جو تم میں بڑا ہوئے سے مراد ایک دوسری

رسول اکرم ﷺ کی 125 وصیتیں
حدیث پاک کی وجہ سے معنی یہ ہے کہ جو تم میں دینی علم رکھنے کے اعتبار سے فائق
اور بڑا ہو وہ امامت کرائے۔

❾ دس باتوں کی وصیت

جبلؑ فقاہت سیدنا معاذ بن جبلؑ فرماتے ہیں کہ میرے آقا

مدنی کریم ﷺ نے مجھے ان دس باتوں کی وصیت فرمائی.....

❶ لَا تُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا وَإِنْ قُتُلْتَ وَحُرِيقْتَ -

تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ہبھرا، اگرچہ مجھے قتل کر دیا جائے یا
آگ میں جلا دیا جائے۔

❷ وَلَا تَعْقِنَ وَالْدَيْكَ وَإِنْ أَمْرَاكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ -

اور تو اپنے والدین کی نافرمانی ہرگز نہ کرنا اگرچہ وہ مجھے حکم دیں کہ تو اپنے
مال اور اہل و عیال سے دست بردار ہو جائے۔

❸ وَلَا تَتَرَوَّكَنَ صَلَةً مَكْتُوبَةً مَتَعْمِدًا فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ صَلْوَةً مَكْتُوبَةً
مَتَعْمِدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ -

اور تو فرض نماز جان بوجھ کر ہرگز نہ چھوڑنا جو آدمی جان بوجھ کر فرض نماز
چھوڑ دے تھیں اس سے اللہ کا ذمہ اٹھ جاتا ہے۔

❹ وَلَا تَشْرَبَنَ خَمْرًا فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ -

اور شراب ہرگز نہ پینا بے شک وہ تو ہر بے حیائی کی جڑ ہے۔

❺ وَإِيَّاكَ وَالْمُعْصِيَةَ فَإِنَّ بِالْمُعْصِيَةِ حَلَّ سَخْطُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

اور اللہ کی نافرمانی سے بچو، بے شک نافرمانی سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اتر آتی ہے۔

وَإِيَّاكَ وَالْفِرَادَ مِنَ الزَّحْفِ وَإِنْ هَلَكَ النَّاسُ

اور میدان جنگ سے بھاگنے سے بچو، اگرچہ سبھی لوگ ہلاک ہو جائیں۔

وَإِذَا أَصَابَ النَّاسَ مُؤْقَانٌ وَأَنْتَ فِيهِمْ فَاثْبُثْ

اور جب لوگوں کو کوئی طاعون جیسی وبا آئے، تو ان میں ہوتا ثابت قدمی اختیار کر۔

وَأَنْفِقْ عَلَىٰ عِيَالِكَ مِنْ كُلُّكَ

اور اپنے اہل و عیال پر اپنے مال سے فراخمدی سے خرچ کرتے رہنا۔

وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ أَدَبًا

اور اپنے گھروالوں کو ادب سکھانے کی خاطر ان سے ڈنڈانہ اٹھانا۔

وَأَخْفِهِمْ فِيِ اللَّهِ

اور انہیں اللہ کے حقوق کے بارے میں ڈراتے رہنا۔

مند احمد

⑩ بہت سے نیک کاموں کی جامع وصیت

فقیر امت سیدنا معاذ بن جبل ؓ اپنے شفیق و کریم آقا، محمد مصطفیٰ ﷺ کے ہمراہ تھے آپ ﷺ نے ان کا ہاتھ پکڑ کر..... اپنی جانب متوجہ کیا..... اور فرمایا.....

رسول اکرم ﷺ کی 125 دسیتیں

اے معاذ! میں تمہیں (چند باتوں کی) وصیت کرتا ہوں تقویٰ اختیار کرنے کی وجہ بولنے کی اپنا عہد پورا کرنے کی امانت ادا کرنے کی خیانت سے بچنے کی پیشیم پر مہربانی کرنے کی ہمسایگی کا خیال کرنے کی اپنے غصے پر قابو پانے کی بات میں نزی اختیار کرنے کی لوگوں کو سلام کرنے کی امام کا ساتھ نہ چھوڑنے کی قرآن پاک میں گہری نظر رکھنے کی آخرت کی محبت کی اپنے حساب سے ڈرتے رہنے کی اور اپنی امیدیں کم اور عمل اچھا بنانے کی وصیت کرتا ہوں۔

اور میں تمہیں (چند باتوں سے) سے منع کرتا ہوں کسی مسلمان کو گالی دینے سے کسی جھوٹے کی تصدیق کرنے سے کسی سچے آدمی کو ناقص جھوٹا قرار دینے سے امام عادل کی نافرمانی سے اور زمین میں فساد و بگاڑ پیدا کرنے سے۔

اے معاذ! سنو!

((وَإِذْ كُرِّبَ اللَّهُ عِنْدَهُ كُلِّ حَجَرٍ وَشَجَرٍ وَإِذَا عَمِلَتْ سَيِّئَةً

فَاحْدِثْ عِنْدَهَا تُوبَةً الْسِّرِّ بِالسِّرِّ وَالْعَلَانِيَةُ بِالْعَلَانِيَةِ))

ہر درخت اور ہر پھر کے پاس اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو

اور ہر گناہ پر اللہ سے توبہ کیا کرو

اگر گناہ چھپ کر کیا ہے تو اس پر چھپ کر توبہ کرو

اعلامیہ خطا کی ہے تو اس پر اعلامیہ توبہ کرتے رہو۔

بیہقی شریف

۱۱ خوش آمدید! اے طالبین علم!

کریم آقا کے کریم النفس صحابی، سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ آپ ﷺ کی علم دین کے طالبین کے لیے ایک بہترین وصیت روایت فرماتے ہیں کہ رسول اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا.....

((سَيِّئَاتِيْكُمْ أَقْوَامٌ يَطْلُبُونَ الْعِلْمَ))

عنقریب تمہارے پاس کچھ لوگ علم حاصل کرنے کے لیے آئیں گے۔ لہذا جب وہ تمہارے پاس آئیں تو یوں انہیں خوش آمدید کہنا:

((مَرْحَبًا مَرْحَبًا بِوَصِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ))

اے رسول اللہ ﷺ کی وصیت کے مطابق آنے والو! ہم تمہیں مرحبا کہتے ہیں مرحبا۔ اور انہیں خوب علم دین سکھانا۔

..... ابن ماجہ، کتاب المقدمة

[ترجمی شریف، کتاب العلم میں بھی تقریباً اسی مضمون کی دو احادیث آئی

ہیں -]

۱۲ چار باتوں کی وصیت

حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اقدس ﷺ نے مجھے چار باتوں کی وصیت فرمائی۔ وہ مجھے دنیا اور اس کی ساری دلوں سے زیادہ پیاری ہے۔ آپ ﷺ

نے ارشاد فرمایا:

اے ابو ذر !

- ۱ اپنی کشتی کو مضبوط کرو کیوں کہ سمندر گھرا ہے۔
- ۲ اپنا تو شہ خوب جمع کرو کہ سفر بہت لمبا ہے۔
- ۳ اپنی پیٹیجہ ہلکی کرو کہ گھاثی دشوار گزار اور بہت سکھن ہے۔
- ۴ اور تم اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرو کہ حساب لینے والا بہت باریک میں ہے۔

..... امام مقدسی

۱۳ رُلَادِيْنے والی وصیت اور رقت آمیز خطبه

ایک جلیل القدر صحابی سیدنا عرب باض بن ساریہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز رسول کریم، روف و رحیم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو ایسا رقت آمیز وعظ فرمایا کہ جس سے دل دہل گئے اور ہماری آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں لگ گئیں۔ ہم نے عرض کیا: اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم! گویا یہ تو آپ کا رخصت کرنے والا وعظ ہے..... لہذا براہ کرم ہمیں کچھ وصیت فرمادیجئے! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا.....

((أُوصِّيْكُمْ بِتَقْوَىِ اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبَدَّا حَبَشِيَا
فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشُ مِنْكُمْ بَعْدِيْ فَسَيَرَىٰ إِخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ
بِسِنَتِيْ وَسِنَةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيِّينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُُوا عَلَيْهَا

رسول اکرم ﷺ کی 125 وصیتیں
 بِالنَّوَاجِدِ وَإِيَّاكُمْ وَالْمُحْدَثَاتِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدُعَةٍ

میں تمہیں اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا اور [نیکی کے معاملات میں اپنے حاکم کی] اطاعت و فرمان برداری اختیار کیے رکھنا چاہے تمہارا امیر جبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ جو شخص تم میں سے [میرے بعد] زندہ رہا وہ عنقریب بہت سا اختلاف دیکھے گا پس تم میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو لازم جانتا اور اسے دانتوں سے مضبوط تھام لینا، اور دین میں نئی نئی باتیں گھر لینے سے بچنا کیونکہ دین میں ہر نئی بات کو داخل کر لینا بدعت و گمراہی ہے۔

سنن دارمی، کتاب المقدمہ، ترمذی شریف، کتاب العلم۔ ابن ماجہ، کتاب المقدمہ۔

[مذکورہ بالا تینوں کتب کے الفاظ میں کسی قدر تقدیم و تاخیر ہے مگر مضمون تقریباً ایک سا ہے]

۱۲ پانچ لاکھ میں سے پانچ احادیث کی وصیت

امام اعظم ابوحنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو چند بہت اہم وصیتیں فرمائیں۔ ان میں انیسویں وصیت یہ تھی

((أَنْ تَعْمَلَ بِخَمْسَةِ أَحَادِيثٍ جَمَعْتُهَا مِنْ خَمْسٍ مِائَةِ أَلْفٍ))

بیٹا! میں نے تمہارے لیے پانچ لاکھ احادیث میں سے پانچ احادیث

رسول اکرم ﷺ کی 125 صیتیں

خلاصہ اور لب لباب کے طور پر جمع کی ہیں زندگی بھر ان پر عمل کرتے رہنا۔

۱) إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ وَلِكُلِّ أُمْرٍ مَا نَوَى [بخاری، مسلم]

۲) مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمُرْءِ تَرُكُهُ مَا لَا يَعْنِيهُ [بخاری]

۳) لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِآخِرِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ [بخاری،

ترمذی]

۴) إِنَّ الْحَلَالَ بَيْنَ وَالْحَرَامَ بَيْنَ وَبَيْنِهِمَا مُشْبَهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبَرَ أَلِدِينِهِ وَغَرِضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَوَاعِدٍ يَرُوْعُ عَنِ حَوْلِ الْحِمْنِي يُوْشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ، أَلَا أَنَّ لِكُلِّ مَلَكٍ حِمْنِي، أَلَا وَإِنَّ حِمْنِي اللَّهِ مَحَارِمٌ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضَغَةً إِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَهِيَ الْقَلْبُ - [مسلم]

بُشْرِيف]

۵) الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ [مسلم، ابو داؤد]
احادیث کا ترجمہ بالترتیب ملاحظہ فرمائیں.....

۶) تمام اعمال کا دار و ندار نیتوں پر ہے ہر ایک شخص کو اس کے عمل کے نتیجے میں وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔

۷) انسان کے اسلام کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ لائیعنی (بے مقصد) چیزوں کو ترک کر دے۔

تم میں سے کوئی شخص حقیقی معنوں میں مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔

[اللہ تعالیٰ کے احکامات میں سے [حلال بھی واضح ہیں اور حرام بھی واضح ۔ اور ان دونوں کے درمیان کچھ شبہ والی چیزیں ہیں جن کے حقیقی حکم سے بہت سے لوگ آگاہ نہیں [ہاں جسے اللہ تعالیٰ نے اس کا علم عطا کیا ہو] پس جو شخص شبہات میں پڑنے سے نج گیا اس نے اپنا دین اور اپنی آبر و بچائی ۔ اور جو شخص شبہات کے چکر میں پڑ گیا وہ یقیناً حرام کے راستے پر چل نکلے گا ۔ اور اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی چڑواہا اپنے جانور کسی دوسرے کی حدود کے پاس چڑائے تو خطرہ یہ ہے کہ وہ غیر کی حدود میں داخل ہو جائیں گے ۔

خبردار ! ہر ایک مالک کی ایک چراگاہ ہوتی ہے ۔ اور اللہ تعالیٰ کی چراگاہ اس کی حرام کردہ اشیاء و اعمال ہیں ۔ اور وہی شخص اللہ کریم کی محترمات سے معنوں میں نج سکتا ہے جو اس کی حدود پر [آگے بڑھنے یا پھلانگنے سے] رُک جاتا ہے ۔

سنو ! ہر بدن میں اللہ تعالیٰ نے ایک گوشت کا نکڑا پیدا کیا ہے جو سنور چائے تو سارا بدن سنور جاتا ہے اور اگر گوشت کا وہ لوثہ اخراب ہو جائے تو سارا بدن خراب ہو جاتا ہے ۔ سنو ! وہ دل ہے ۔

تم میں سے وہ کامل مسلمان وہی شخص ہو سکتا ہے جس کے ہاتھ اور زبان

رسول اکرم ﷺ کی 125 وصیتیں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ [امام اعظمؑ کی وصیتیں اور فصیحتیں، صفحہ 78]

» یہ پانچوں احادیث، صحابح ستہ کی مشہور احادیث ہیں ۔

۱۵ اللہ تعالیٰ اور بندوں کی محبت کیسے حاصل ہو؟

ایک شخص رسول اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی۔ اے اللہ کے رسول ﷺ! مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں جب اسے کروں تو اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کرنے لگیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((اَزْهَدُ فِي الدُّنْيَا يُحِبُّكَ اللَّهُ))

تو دنیا سے بے رقبی اختیار کر..... اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرنے لگیں گے۔

((وَأَزْهَدُ فِيمَا عِنْدَ النَّاسِ يُعِجِّلُكَ النَّاسُ))

اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے تو بے پرواہ ہو جا تو لوگ مجھ سے محبت کریں گے۔

..... ابن ماجہ، کتاب الزحد

۱۶ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو

صحابہ اور اہل بیت سے محبت ایمان کا حصہ ہے..... ایمان کی علامت اور نشانی ہے..... ان کی عقیدت رسول کریم ﷺ کی تربیت اور محبت کی وجہ سے ہے

رسول اکرم ﷺ کی 125 ویتھیں میں کے رسول اکرم ﷺ کی 125 ویتھیں میں کے
یقیناً رسول کریم ﷺ جیسا معلم اور استاذ بھی دنیا اور نہ دیکھ سکے گی اور صحابہ جیسے
عظیم شاگرد بھی کسی کے نہیں ہوں گے۔

جاشار رسول کریم، سیدنا عبد اللہ بن مغفل ؓ سے مروی ہے کہ رسول
خدا، محمد مصطفیٰ ﷺ نے ارشاد فرمایا: میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو
، پھر فرمایا: میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ میرے بعد انہیں نشانہ نہ
بنانا، جس نے ان سے محبت کی تو اس نے میری محبت کی وجہ سے ایسا کیا اور جس
نے انہیں اذیت پہنچائی تو گویا اس نے مجھے ہی اذیت پہنچائی۔

((وَمَنْ آذَا نِيَّا فَقَدْ آذَا اللَّهَ وَمَنْ آذَا اللَّهَ يُؤْشِكُ أَنْ يَأْخُذَهُ))

[اور یاد رکھو!] جس نے مجھے اذیت پہنچائی اس نے اللہ تعالیٰ کو اذیت
پہنچائی..... اور جس نے اللہ تعالیٰ کو اذیت پہنچائی تو قریب ہے کہ اللہ
تعالیٰ اس کی گرفت کرے۔

ترمذی، کتاب المناقب

۱۷) پیچ کی برکت اور جھوٹ سے نفرت

سیدنا عبد اللہ بن مسعود ؓ اپنے محسن، جبیب رب العالمین، اپنے آقا،
رحمۃ للعالمین حضرت محمد ﷺ کا فرمان عالیشان روایت فرماتے ہیں کہ..... تم پر پیچ
بولنا لازم ہے۔ بلاشبہ پیچ نیکی ہے اور نیکی جنت کی راہ پر لاتی ہے
((وَإِنَّ الرَّجُلَ لِيَصُدُّقُ حَتَّىٰ يُكْتَبُ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا))

اور آدمی پیچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اسے صدیق

[سچا] لکھ دیا جاتا ہے۔

تم جھوٹ سے ضرور بچو۔ اور بے شک جھوٹ نافرمانی ہے اور نافرمانی جہنم کی راہ پر چلاتی ہے..... اور ایک شخص جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں کذا ب [جھوٹا] لکھ دیا جاتا ہے..... وَإِنَّ الرَّجُلَ لِيَكْذِبُ حَتَّىٰ يُنْكَثِبْ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا۔

مسلم، کتاب البر والصلة والآداب۔ ترجمہ) بخاری ۵۶۲۹، کتاب الادب

⑯ مظلوم کی آہ و بد دعا سے بچو!

سیدنا معاذ بن جبل رض ایک جلیل القدر صحابی ہیں رحمیع کون و مکان، سرور دو جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت اونچا کر دیا۔ آخرت میں اپنے پروانہ رضا کا وعدہ بھی فرمایا اور دنیا میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یمن کے گورزو والی کے طور پر تعینات فرمایا..... اور جب روف و رجیم آقا انہیں گورنری کے لیے بھیج رہے تھے تو آپ انہیں شاندار انداز میں وصیت فرمار ہے تھے..... جس میں آپ نے یہ بھی فرمایا.....

(إِنَّ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ)

مظلوم کی بد دعا سے بچو! بلاشبہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی آڑ نہیں ہوتی۔

بخاری کتاب المظالم والغضب

فیز عبد اللہ اسدی رحمة اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا انس بن مالک

رسول اکرم ﷺ کی 125 وصیتیں

جنہیں سے نادہ فرمائے ہے تھے کہ آقائے عرب و مجھم سید کائنات، حضرت محمد رسول اللہ ﷺ سے [لوگوں کو بربلا نصیحت کرتے] نا.....

((اتَّقُوا دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ وَإِنْ كَانَ كَافِرًا فَإِنَّهُ لَيْسَ دُونَهَا
حِجَابٌ))

لوگوں مظلوم کی بذ دعا سے بچو! اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ بلاشبہ اس کی آہ و بد دعا اور اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے درمیان میں کوئی زناوٹ نہیں ہوتی۔

مند احمد

فائدہ: معلوم ہوا کہ سب گناہوں میں سے ظلم ایسا بے رحم گناہ اور بدتر خطا ہے کہ چاہے کافر کے ساتھ بھی کیا جا رہا ہو تو اللہ کریم کو برداشت نہیں۔ لہذا ہر حال میں ظلم سے بچنے کی تاکیدی وصیت فرمائی گئی ہے اور قرآن و سنت میں جا بجا اس کی بہت سی قبایلیں بھی بیان کی گئی ہیں۔

۱۹ ایمان کی ناقدری سے بچنا

حضرت ابو حیرہ رضی اللہ عنہ اپنے بے مثال معلم و استاد، امام الانبیاء محمد رسول اللہ ﷺ سے یہ عظیم ارشاد منقول کرتے ہیں.....

((بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ فَإِنَّمَا كَفِطَعَ اللَّيْلُ الْمُظْلِمِ يُضْبِحُ الرَّجُلُ
مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا أَوْ يُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُضْبِحُ كَافِرًا يَبْيَعُ دِينَهُ
يَعْرَضُ مِنَ التَّنْبِيَا))

رسول اکرم ﷺ کی 125 صیفیں میں اعمالِ صالحہ میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش میں لگے رہو۔ قبل اس کے کہ اندر ہیری رات کی طرح ایسے گھٹاٹوپ اندر ہیرے چھا جائیں۔ کہ آدمی صبح ایمان کی حالت میں کرے اور شام کو کافر ہو چکا ہو۔ یا شام کو صاحب ایمان ہو اور صبح تک ایمان بر باد کیے بیٹھا ہو۔ اور دنیا کی کچھ حقیر چیزوں کے لیے اپنا دین تک نیچ ڈالے۔

مسلم شریف، کتاب الایمان

۴۰) ماں باپ یا غیر اللہ کی قسمیں مت کھاؤ

امام المُعَتَّبِین و تاج المُخْدَثِین محمد بن سیرین، حضرت ابو ہریرہ رض سے روایت فرماتے ہیں کہ سید دو عالم، حضرت محمد رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا.....

((لَا تَحْلِفُوا بِاَبَائِكُمْ وَلَا بِاُمَّهَاتِكُمْ وَلَا بِالْأَنْدَادِ وَلَا تَحْلِفُوا
بِاللّٰهِ إِلَّا وَأَنْتُمْ صَادِقُونَ))

تم اپنے ماں باپ کے نام کی قسمیں مت کھایا کرو..... اور ان کے علاوہ بھی [اللہ کے غیر کی قسمیں کھانے سے گریز کرو۔ اور جب قسم کھانی ہو تو صرف اللہ کے نام کی ہی کھاؤ۔ اور صرف چج بات پر ہی قسم کھایا کرو۔

ابوداؤد، نسائی فی کتاب الایمان والندور

حضرت عمر رض کا واقعہ کئی کتب احادیث میں ہے کہ میں چند سواروں کے

درمیان کھڑا کسی بارے میں اپنے باپ کی قسم کھا رہا تھا کہ رسول کریم ﷺ اور
سے گذرے آپ نے مجھے آواز دی اور اس فعل سے روکا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں
کہ تم اپنے آباء اجداد کی فتمیں کھاؤ اگر کہیں قسم کھانا ہی ہو تو اللہ تعالیٰ کے نام کی
قسم ہی کھایا کرو۔ فرماتے ہیں کہ وہ دن اور آج کا دن، اپنی گفتگو ہو یا کسی کی بات
نقل کر رہا ہوں، میں نے کبھی ایسی قسم نہیں کھائی جس سے مجھے اللہ کے نبی ﷺ
نے روکا تھا۔ (یہ واقعہ بخاری، مسلم، ابو داؤد وغیرہ کتب میں مذکور ہے)

۲۱ صدمہ پہنچتے ہی صبر کر جانا اصل صبر ہے

پیارے آقا کے پیارے خادم، حضرت انس بن مالک ﷺ فرماتے ہیں کہ
حضور اکرم ﷺ ایک عورت کے پاس سے گزرے جو اپنے بیچے کی موت پر رو
رہی تھی:.....

آپ ﷺ نے اسے فرمایا: اتَّقِنَّ اللَّهَ وَاصْبِرُ: اے عورت! اللہ سے
ڈر اور صبرا اختیار کر۔ اس عورت نے جواب میں کہا شہمیں کیا پتہ مجھ پر کتنی بڑی
مصیبت ٹوٹی ہے۔

جب حضور ﷺ اسے تصحیح فرمائے وہاں سے چلے گئے تو بعد میں لوگوں
نے اس عورت کو بتایا یہ تو رسول اکرم ﷺ تھے (جن کی بات کو تو نے یوں رد
کر دیا) اس بیچاری پر تو یہ سن کر موت کی سی کیفیت طاری ہو گئی اور پھر جلدی سے
حضور ﷺ کے گھر آئی، آپ ﷺ کے دروازہ پر کوئی دربان بھی نہیں تھا۔

آپ ﷺ کے پاس آ کر معدرت کی اور عرض کیا: لَمْ أَعْرِفْكَ میں آپ

رسول اکرم ﷺ کی 125 صفتیں
کو پہچان نہ سکی اس لیے ایسا کہہ بیٹھی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: دیکھو! صد سہ [کی خبر] پہنچتے ہی صبر کر لینا اصل صبر ہے۔ **الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْقَةِ الْأُولَى۔**
مسلم، کتاب الجنائز، ترمذی، کتاب الجنائز

۳۲) پھر لوٹ کر دنیا میں کوئی نہیں آئے گا

حضرت حسن یسار اور جناب قادہ رحمۃ اللہ علیہما کہتے ہیں کہ ہمیں سیدنا انس بن حنفی نے خبر دی کہ رسول کائنات ﷺ نے روزِ محشر کے حساب سے ڈرانے کے لیے اہم وصیت کے طور پر ارشاد فرمایا..... ایک انسان کو رب العالمین کے سامنے پیش کیا جائے گا وہ بھیڑ کے پیچے کی طرح مسکینی کے عالم میں حاضر ہوگا..... اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے بندے! میں نے مجھے مال دیا اپنی فعتیں عطا فرمائیں تو نے میری رضاپانے کے لیے کیا کیا؟ بندہ کہے گا.....

((فَارْبِتْ جَمَعَتَهُ وَثَمَرُتَهُ وَتَرْكُتَهُ أَكْثَرَ مَا كَانَ فَارْجُعُنِي أَتَكَ يَهُ))

اے میرے رب! میں نے بہت سا مال جمع کیا اور خوب بڑھایا لیکن اس میں سے اکثر وہیں چھوڑ کر آگیا پس تو مجھے دنیا میں ایک بار پھر لوٹا دے تاکہ میں وہ لا سکوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے..... مجھے وہ دکھا جونے آج کے لیے آگے بھیج دیا تھا وہ پھر کہے گا اے میرے رب! میں نے دنیا میں بہت سا مال جمع کیا اسے خوب بڑھایا لیکن وہ تو سارا وہیں رہ گیا..... پس تو مجھے دنیا میں ایک بار پھر لوٹا دے تاکہ میں وہ سب کچھ لا سکوں۔ وہ یونہی فریاد کرتا رہ جائے گا اور کوئی نیکی پیش نہ کر سکے گا شیخہ اے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔

ترمذی شریف، کتاب صفة القيامة والرقائق

فائدہ: قرآنی آیات کی طرح یہ احادیث ہمیں اس دن کی بے بسی سے آج ہی ذرا رہی ہیں اور آخرت کے لیے اپنے مالی اور بدنی اعمال کا ذخیرہ کرنے پر آمادہ کر رہی ہیں۔ بھلا ہے وہ شخص جو ان آیات و احادیث سے آج سبق یکھ لے اور آنے والے کل کی تیاری کر کے کامرانی اور سرخوبی کا مستحق بن جائے۔ اور بد نصیب ہے وہ آدمی جس پر ان نصیحتوں کا کچھ اثر نہ ہو اور وہ آج کی دنیا اور کل کی عقبی کو تباہ کر بیٹھے۔ اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مارے، اللہ، رسول کی نافرمانی کر کے اپنی جان پر ظلم ڈھانے اور کل روز قیامت رو سیاہی اس کا مقدر بنے۔

۲۳) گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کی عادت بناؤ

سعید بن میتب رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائے کے تابعی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ہمارے استاد، صحابی رسول، سیدنا انس بن مالک رض نے بتایا..... کہ مجھے میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و آله و سلم نے ارشاد فرمایا.....

((يَا بُنَىٰ إِذَا دَخَلْتَ عَلَىٰ أَهْلِكَ فَسَلِّمْ يَكْنُ بَوْكَةً عَلَيْكَ
وَعَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِكَ))

اسے میرے بیٹے! جب تم اپنے گھر داخل ہوا کرو تو اپنے گھر والوں کو سلام کیا کرو تاکہ تمہارے لیے اور تمہارے گھر والوں کے لیے برکت کا نزول ہوگا۔

ترمذی، کتاب الاستندان والآداب

۲۳ میری سنت سے منہ نہ پھیر لینا

خادم آقا، حضرت انس بن مالک رض فرماتے ہیں کہ تین صحابہ کرام
نبی ﷺ، امام القبیلین، رسول خدا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر آئے اور آپ
صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے آپ کی عبادت کے متعلق دریافت کرنے لگے اور
جب انہیں معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت کثرت سے عبادت کرتے ہیں تو وہ
سوچنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشائے ہیں پھر بھی اس قدر عبادت کرتے
ہیں، ہماری عبادات تو تھوڑی سی ہیں ان کی کیا حیثیت؟ اس پر وہ تینوں آپس میں
بیوں کلام کرنے لگے۔

ایک نے کہا: **فَاصْلِي اللَّيلَ أَبَدًا** بس میں تو روزانہ پوری رات
عبادت کیا کروں گا۔

دوسرے نے کہا: **آنا أَصُومُ الدَّهْرَ فَلَا أُفْطِرُ** میں روزانہ روزہ رکھوں گا
کبھی نہ چھوڑوں گا۔

تیسرا نے کہا..... **آنا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَرْوَجُ أَبَدًا** میں کبھی شادی
نہ کروں گا بس الگ تھلگ رہ کر عبادت ہی کرتا رہوں گا۔ ادھروہ یہ کہہ رہے تھے
اوھر آقا نے کوئی تشریف لے آئے فرمایا **أَنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ** گدَا
وَكَذَا أَمَا آنَا وَاللَّهِ أَنِّي لَا أَخْشَأُكُمْ لِلَّهِ وَأَتَقَاءُكُمْ لَهُ
کیا تم نے ہی ایسے اور ایسے کہا ہے؟

سنوا! میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور تقویٰ رکھنے والا ہوں۔

رسول اکرم ﷺ کی 125 صفحہ پر اس کے باوجود..... میں کسی دن نفلی روزہ رکھتا ہوں کسی دن نہیں رکھتا، اور میں کبھی رات بھر عبادت کرتا ہوں کبھی سویا بھی رہتا ہوں اور..... میں بیویوں سے نکاح بھی کرتا ہوں [الگ تھلگ نہیں رہتا۔] پس یہ میرا طریقہ ہے۔ جس نے اس سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں۔

..... بخاری، کتاب النکاح

۲۵) نرم خوئی اللہ کو بہت پسند ہے

سیدنا ابوذر یہ ﷺ فرماتے ہیں کہ فخر کائنات، سرور دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا:

((إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ وَيُعْطِيْ عَلَيْهِ مَا لَا يُعْطِيْ عَلَى الْعُنْفِ))

بے شک اللہ تعالیٰ نرم خوئی ہے اور زمی کو ہی پسند فرماتا ہے اور نرم خوئی پر وہ کچھ عطا کرتا ہے جو کہ سختی پر نہیں عطا فرماتا۔

..... ابن ماجہ، کتاب الادب

فائدہ: سیدنا ہلال عبیسی رحمۃ اللہ علیہ سیدنا جریر بن جبی ﷺ سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول امین، خاتم المرسلین حضرت محمد ﷺ کا ارشاد پاک ہے کہ جو آدمی نرم خوئی سے محروم رہا وہ بہت سی بھلاکیوں سے تھی دامن رہا۔ نرم خوئی اور مہربانی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے..... اسے اپنے مزاج میں لانے کی کوشش کیجئے اور سختی و تنفسی اس ذات پاک کو ناپسند ہے لہذا اس سے بچئے۔

۲۶ سفر پر جاتے صحابی کو بہت پیاری نصیحت

خدمتِ نبوی کا دس سالہ اعزاز پانے والے صحابی، سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں ایک آدمی رسالت مأب، حتیٰ مرتبت، حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ عرض کی.....

((إِنَّمَا أُرِيدُ سَفَرًا فَزَوَّدْنِي قَالَ رَوَّدَكَ اللَّهُ التَّقُوُىٰ قَالَ زِدْنِي قَالَ وَغَفَرَ ذَنْبَكَ قَالَ زِدْنِي بِأَبِي أُنْثَ وَأُمِّي قَالَ وَيَسِّرْ لَكَ الْخَيْرَ حُلْفُمَا كُنْتَ))

آقا! میں ایک سفر پر روانہ ہونا چاہتا ہوں آپ مجھے کوئی وصیت فرمائیے، آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ مجھے تقویٰ کا تو شہنشیب کرے۔ اس نے کہا: کچھ اور بھی تو ارشاد فرمائیے: آپ نے فرمایا اللہ مجھے گناہوں سے پاک کرے۔ [صحابی نے سوچا: رحمت کی اس برسات میں خوب سیر ہو کر سعادتیں لوئے۔] هدست اشتیاق سے پھر التجاکی: میرے ماں باپ آپ پر قربان، مزید کچھ اور..... میرے آقا! آپ نے فرمایا: تو جہاں کہیں ہوں اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ بھلانی والا معاملہ فرمائے۔

..... ترمذی، کتاب الدعوات

۲۷ عدل کرنے والے بنو!

سیدنا عبد اللہ بن عمر و بن العاص فرماتے ہیں کہ میں نے نبی دو عالم، رسول

رسول اکرم ﷺ کی 125 صفحیں

کرم، حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی زبان اطہر سے سناء..... آپ فرمادیں تھے.....

((إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَىٰ مَنَابِرٍ مِّنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ وَكِلْتَا يَدِيهِ يَمِينٌ ،الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِهِمْ وَمَا وَلُوا))

بے شک عدل کرنے والے لوگ، روز قیامت ربِ حَمْنَ کے دائیں طرف، نور کے منبروں پر [بڑی شان سے] بیٹھے ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے ماتحتوں اور گھر والوں کے درمیان عدل سے پیش آتے ہوں گے۔ اور فرمایا: یاد رکھو! حَمْنَ کی دونوں جانب دائیں جانب ہی کہلاتی ہیں۔ [مسند احمد میں ہے کہ موتیوں کے منبروں پر بیٹھے ہوں گے]

مسلم شریف، کتاب الامارہ - نسائی، کتاب آداب القضاۃ

۲۶ حکمران اپنے ماتحتوں پر مظالم نہ ڈھائیں

رسول کریم ﷺ کے حق گو صحابی، سیدنا عائزہؓ عبید اللہ بن زیاد کے پاس آئے اور اسے تنبیہ کے طور پر فرمایا: میں نے خود رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے سنے ہے

((إِنَّ شَرَّ الرِّعَاءِ الْحُكْمَةُ ،فَلَا يَأْكَلَ أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ))

”بے شک ہرے حکمران وہ ہوں گے جو اپنے ماتحت لوگوں پر مظالم ڈھائیں گے۔“

خبردار! تو ان میں سے نہ بن۔ این زیاد نے بڑی خنوت اور تکبر سے کہا:

بیٹھ جا! تمہاری حیثیت کچھ نہیں ہے اصحابِ محمد ﷺ میں سے۔ گویا تم کوئی بڑے عالم فاضل نہیں ہو، تم تو ان کا چھان بورا ہو، سیدنا عائذ اللہ عنہ نے فرمایا: وَهُنْ كَانُتُ لَهُمْ نُخَالَةٌ إِنَّمَا كَانَتِ النُّخَالَةُ بَعْدَهُمْ وَفِي عَيْرِهِمْ [بے شک وہ کبھی عمدہ لوگ تھے] ان میں چھان بورا کچھ نہ تھا۔ چھان بورا تو ان کے بعد کے لوگوں میں ہی ہو سکتا ہے۔

مسلم شریف، کتاب الامارہ

۲۹ لوگو! مساک ضرور کیا کرو

جانشیر رسول عربی، سیدنا ابو امامہ بن حوش سے منقول ہے کہ مدینہ کے تاجدار، آقائے نامدار، حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

((تَسْوَكُوا فِيَنَ السِّوَاكَ مَطْهَرَةً لِلْفِيمِ مَرْضَاةً لِلرَّكْبِ مَاجَاءَ نَبِيٌّ جِبْرِيلٌ إِلَّا أَوْجَانِي بِالسِّوَاكِ))

لوگو! مساک ضرور کیا کرو بے شک یہ منہ کو پاک کرتی ہے اور رب تعالیٰ کی رضا اس سے حاصل ہوتی ہے۔ جبریل امین مجھے ہمیشہ اس کی وصیت کرتے رہے..... یہاں تک کہ مجھے اندریشہ ہوا کہ یہ مجھے پر اور میری امت پر فرض کر دی جائے گی۔ اور اگر مجھے اپنی امت کے بارے میں سختی کا اندریشہ ہوتا تو میں امت کے لیے اسے لازم کر دیتا۔ اور دیکھو! میں خود اس قدر کثرت سے مساک کرتا ہوں کہ میرے مسوڑے اس سے بسا اوقات بچھل جاتے ہیں۔

۳۰ کسی کو گالی نہ دینا

حضرت ابو تمیمہ کہتے ہیں کہ میری قوم کا ایک آدمی رسول رحمت ﷺ کے پاس آیا اور کہا: کیا آپ ہی اللہ کے رسول حضرت محمد ﷺ ہیں؟ فرمایا: ہاں۔ تو اس نے کہا: آپ کس کی طرف بلا تے ہیں؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: میں ایک اکیلے اللہ عز و جل کی جانب لوگوں کو بلا تا ہوں۔ وہ اللہ، کہ جب تو کسی پر بیٹھانی میں اسے پکارے تو وہ تیری تکلیف کو دور کر دے، جب تو تحفظ سالی کا شکار ہو کر اس سے مدد مانگے تو زمین سے پیداوار آگائے، اور جب سُخنے جنگل میں تو راستہ کھو جائے پھر اس ذات کو پکارے تو وہ تیری سیدھے رستے کی جانب راہنمائی کرے۔ میں اس اللہ وحدہ لا شریک کی جانب لوگوں کو بلا تا ہوں۔ یہ باقی سن کر وہ شخص اسلام لے آیا۔

اور پھر آپ سے مخاطب ہو کر عرض کرنے لگا:

((أَوْصِينِي يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى الْجَنَاحِ فَقَالَ لَهُ لَا تَسْئِئْ شَيْئًا قَالَ فَمَا
سَبَبَتْ بَعِيرًا وَلَا شَاهَةَ مَنْدَدًا أَوْ صَانِيَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْجَنَاحِ ، وَلَا تَزْهَدْ
فِي الْمَعْرُوفِ وَلَا مُنْبِطْ وَجْهُكَ إِلَى أَخْيُوكَ وَأَنْتَ تُخَلِّمُهُ
وَأَفْرِغْ مِنْ دَلْوِكَ فِي إِنَاءِ الْمُسْتَسْقِي وَاتَّزِدْ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ
فَإِنْ أَبَيْتَ فَالِي الْكَعْبَيْنِ وَرَأَيْكَ وَاسْبَأَ الْأَرْأَرِ فَإِنَّهَا مِنَ الْمَنْجِيلَةِ
وَاللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَا يُحِبُّ الْمَنْجِيلَةَ))

اے اللہ کے رسول! مجھے کچھ وصیت فرمائیے!

فرمایا: آئندہ کسی کو گالی مت دینا [وہ بتایا کرتے تھے کہ اس کے بعد انسان کو تو کیا میں نے کسی اوٹ یا بھیز بکری کو بھی بھی گالی نہیں دی۔ سچان اللہ! صحابہ کتنے قدر دان تھے۔] اور کسی نیکی سے جی نہ چڑانا چاہے گرچہ وہ اپنے بھائی سے بات چیت کرتے ہوئے کشادہ پیشانی سے نظر ڈالنا ہی کیوں نہ ہو۔ اور پانی کے متلاشی کو اپنے ڈول میں سے کچھ پانی ڈال کر دے دینا۔ اور اپنی تہبند کو نصف پنڈلی تک رکھنا اور اگر یہ نہ کر سکو تو آخری حدثنوں کے قریب تک رکھنے کی ہے۔ اور یاد رکھو! اپنا کپڑا [تہبند، شلوار] ٹھننوں سے نیچے نہ لٹکانا کہ یہ تکبر ہے اور تکبر اللہ کی ذات کو بہت ناپسند ہے۔

..... مند احمد

۳۴ کھانا ہمارے کے گھر بھجوانے کی وصیت

سیدنا ابوذر ؓ سے منقول ہے کہ میرے پیارے خلیل، آقائے کریم، محمد عربی ﷺ نے مجھے وصیت فرمائی

((إِنَّ خَلِيلِيُّ أَوْ صَانِيٌّ إِذَا طَبَعَتْ مَرْقَأًا فَأُكْثِرْ مَاءَهُ فُؤَمْ اُنْظُرْ
أَهْلَ بَيْتٍ مِّنْ جِهْرِ إِنْكَ فَاصِبُّهُمْ مِّنْهَا بِمَعْرُوفٍ))

جب تم سالن پکاؤ تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال کر شور با پڑھا لو پھر اپنے پڑوسیوں میں سے کسی گمر میں وہ بھجوادو۔ اور یوں مناسب طریقے سے

اس میں سے ان کا حق انہیں پہنچا دیا کرو۔

مسلم شریف، کتاب البر والصلة والآداب - سخن داری، کتاب الاطعمة

۲۴) تقویٰ ہر چیز کی اصل اور جڑ ہے

جاء فدائے رسول، سیدنا ابوسعید خدری رض کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا
اے صحابی رسول، مجھے کچھ وصیت فرمائیے! آپ نے فرمایا..... تجھے سے پہلے میں
نے بھی کائنات کے عظیم چیزیں، سرور کون و مکان، احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
سے بھی درخواست کی تھی تو آپ نے مجھے فرمایا تھا.....

((أُوْحِسِّبُكَ بِتَقْوَىِ اللَّهِ كَيْنَهُ رَأْسَ كُلِّ شَيْءٍ وَعَلَيْكَ بِالْجِهَادِ
كَيْنَهُ رَهْبَانِيَّةُ الْإِسْلَامِ وَعَلَيْكَ بِذِكْرِ اللَّهِ وَتَلَاوَةُ الْقُرْآنِ كَيْنَهُ
رَوْحُكَ فِي السَّمَاءِ وَذِكْرُكَ فِي الْأَرْضِ))

فرمایا: میں تجھے اللہ کا ذر اور تقویٰ اپنانے کی وصیت کرتا ہوں کہ وہ ہر
چیز کی اصل اور جڑ ہے۔ اور تم پر جہاد بھی لازم ہے اس لیے کہ وہ اسلام
کی رہنمائیت ہے۔ اور تم پر اللہ کا ذکر اور تلاوت قرآن بھی لازم ہے کہ
وہ تیری لیے آسمان میں پاکیزہ خوبی و اور زمین میں یادگار رہے گا۔

مند احمد

۲۵) غصہ نہ کیا کرو

علوم نبوت کے معروف فوط زن، محبوب صحابی، سیدنا ابوصریرہ رض فرماتے

رسول اکرم ﷺ کی 125 و میتھیں

ہیں کہ ایک آدمی [جاریہ بن قدامہ] رسول دو جہاں، نبی آخر الزماں، محمد رسول اللہ ﷺ کے پاس حاضر ہوا اور درخواست کرنے لگا۔

((اُوْحِسْنِیْ فَالَّا تَفْضَبْ قَرَدَهْ مِوَارَّاً فَالَّا تَفْضَبْ))

حضور مجھے سچھ و صیت فرمائیے! [طبرانی شریف کی حدیث میں ہے کہ اس نے یہ بھی کہا کہ چھوٹی سی بات فرمائیے تاکہ یاد رکھ سکوں اور نفع پاؤں]۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا: غصہ نہ کیا کرو۔ اس نے تین بار اپنی درخواست کو دھرا دیا اور آپ ﷺ نے بھی تین بار اسی جملہ کو جواب دھرا دیا۔ کہ غصہ نہ کیا کرو۔

..... بخاری شریف، کتاب الادب

فائدہ: چونکہ مختصر و صیت چاہی تھی اس لیے آپ نے اختصار ہی سے کام لیا۔ آپ ﷺ نے اس کی طبیعت میں غصہ کے آثار دیکھئے [جیسا کہ طبیبد حاذق مریض کے چہرے سے دیکھ کر بھی بسا اوقات بیماری شناخت کر لیتا ہے۔] اس لیے غصہ کرنے سے روک دیا۔ یا اس وجہ سے کہ غصہ عقل کو کھا جاتا ہے۔ لذائی جھگڑے اور قطع رحمی کا عموماً سبب بنتا ہے اس وجہ سے اس پر قابو پالینا گویا بہت سے امور کو قابو میں کر لینا ہے۔

نیز آپ ﷺ کا ارشاد ہے کہ قوی وہ نہیں جو کسی کو پچھاڑ ڈالے بلکہ قوی تو وہ ہے جو اپنے اوپر غصے کے وقت قابو پالے۔۔۔۔۔ اس وجہ سے آپ نے اسے یہ وصیت فرمانا ہی موزوں سمجھا۔ گویا اختصار سے بھی کام لیا اور کوزے میں سمندر کی طرح اسے جامع بھی بنادیا۔ حضور ﷺ کی یہ شان فصاحت کیا کہنا! سبحان اللہ!

۳۳ خطا ہو جائے تو فوراً کوئی نیکی کرلو

دنی کریم کے پیارے شاگرد، سیدنا ابوذر ؓ سے مروی ہے کہ رسول کریم روف و رحیم حضرت محمد ﷺ سے ایک موقع پر میں نے کہا.....

((قَالَ رَسُولُ اللَّهِ أَوْصَنِي قَالَ إِذَا عَمِلْتَ سَيِّئَةً فَاتَّبِعْهَا حَسَنَةً تَمْحُهَا قَالَ قُلْتُ أَمِنَ الْحَسَنَاتِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ هِيَ أَفْضَلُ الْحَسَنَاتِ))

اے اللہ کے رسول ﷺ! مجھے کوئی وصیت فرمادیجئے! فرمایا..... جب کبھی کوئی خطا کر بیٹھو اس کے بعد فوراً کوئی نیکی ضرور کرلو..... تاکہ یہ اس کو مٹا دے۔ میں نے کہا: کیا لا الہ الا اللہ کہنا بھی نیکیوں میں سے ہے؟ ارشاد فرمایا: ہاں، یہ تو نیکیوں میں سے بڑی افضل نیکی ہے۔

فاائدہ: اسی طرح کی ایک اور حدیث پاک سیدنا معاذ ؓ کی مرویات میں بھی ہے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ سے وصیت چاہی تو مجھے فرمایا..... تو جہاں کہیں ہو اللہ سے ڈرو۔ میں نے کہا: کچھ اور بھی فرمادیجئے! فرمایا: جب کبھی کوئی خطا ہو جائے تو اس کے بعد فوراً کوئی نیکی ضرور کر لیا کرو..... یہ اس کو مٹا دے گی۔ میں نے عرض کیا: براء کرم کچھ اور! فرمایا: لوگوں سے حسن اخلاق سے پیش آیا کرو۔

۳۵ ہمسائے کے حق میں بار بار وصیت

حضرت ابوالعالیہ ﷺ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک انصاری صحابی نے بتایا کہ میں اپنے گمراہوں کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کے پاس جانے کی غرض سے لکلا دیکھا کہ ایک آدمی آپ ﷺ کے پاس آکے بات چیت میں مشغول ہو گیا۔ میں ذرا دور ہٹ کر انتظار میں بیٹھ گیا کہ ان کی بات پوری ہوتی میں آپ ﷺ کے پاس جاؤں۔

اللہ کے رسول ﷺ کھڑے کھڑے اس کے ساتھ دیر تک بات فرماتے رہے اور میں دل میں گودھتا رہا کہ اس شخص نے اتنی دیر سے آپ کو کھڑا کیا ہوا ہے۔ بالآخر وہ چلا گیا تو میں اٹھ کر محبوب مکرم ﷺ کے پاس آیا اور میں نے کہا: حضور! مجھے تو آپ کا اتنی دیر کھڑے رہنا بہت شاق گزرا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: تم جانتے ہو یہ کون تھے؟ میں نے عرض کیا، نہیں۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا.....

((ذَاكَ جِهْرِيْلُ يُوْصِيْنُ بِالْجَعَارِ حَتَّىٰ ظَنَّثُ أَنَّهُ سَيُورِيْفَةً))

یہ جبراہیل امین تھے جو مجھے ہمسائے کے بارے میں بار بار وصیت کر رہے تھے یہاں تک کہ میں نے سچا کہ شاید وہ اسے دراثت کا حق دار تھا راویں۔

اور سنو! اگر تم انہیں سلام کرتے تو وہ تمہیں سلام کا جواب ضرور دیتے۔

﴿ رنج و غم سے نجات کیسے پاسکو گے؟ ﴾

رحمت دو عالم ﷺ نے سیدنا علی ﷺ کو ایک موقع پر فرمایا: اے علی! کیا میں تجھے اسی دعائے سکھاؤں کہ جب تجھے کوئی غم یا دُکھ پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے وہ سب کچھ دور فرمادے اور تجھے آسانیاں عطا فرمادے۔ (جب حضرت علی ﷺ نے اس دعا کے سکھنے پر اپنا اشتیاق ظاہر کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا) پہلے اچھی طرح کر کے بہترین انداز میں دور کعت نماز ادا کرو۔ پھر اللہ جل جلالہ کی خوب حمد و شنا بیان کرو۔ اور اپنے نبی ﷺ پر درود بیجو۔ اس کے بعد اپنی ذات کے واسطے اور جملہ اہل ایمان مردوں اور عورتوں کے واسطے استغفار اور بخشش اللہ تعالیٰ سے چاہو۔

اور پھر ان الفاظ میں دعا کرو.....

((اللَّهُمَّ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ لَا إِلَهَ
إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ، سُبْحَانَ
اللَّهِ رَبِّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ
وَرَبِّ الْعَالَمِينَ، اللَّهُمَّ كَافِشَ الْقَمَمَ، مُفْرِجَ الْهَمَ، مُجِيبَ
دُعَوَةِ الْمُضْكَرِينَ إِذَا دُعُوكَ، رَحْمَنَ اللَّهُ وَالْأَخِرَةَ
وَرَحِيمَهُمَا كَارِحَمَنِي لِيْ حَاجَجْتُ هُنْهُ بِقَضَاءِ هَا وَلَبَعَاجِهَا
رَحْمَةً تُهْبِسُ بِهَا عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سَوَّاكَ۔))

ترجمہ: اے اللہ! اپنے بندوں کے درمیان تو ہی فیصلہ کرے گا جس میں

وہ اختلاف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ بلند و برتر ہے۔ اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ بُردار اور کریم ہے۔ اللہ پاک ہے، ساتوں آسمانوں اور عرشِ عظیم کا رب وہی ہے۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا پانہدار ہے۔ اے غنوں کے دور کرنے والے! بے قراروں کی دعا قبول کرنے والے جب وہ تجھے سے دعا کریں۔ دنیا و آخرت میں بے حد مہربان و چیز انہصار حم کرنے والے! مجھے پر ایسی رحمت فرم اکہ میری حاجت پوری ہو جائے۔ اور مجھے کامرانی مل جائے۔ اور مجھے پر یوں مہربانی فرم اکہ تیرے علاوہ سنب کی نوازشات سے میں بے نیاز ہو جاؤں۔

..... الترغیب و التوہیب للأصفهانی۔

۲۷ میں اپنا مال کیسے خرچ کروں؟

تاجدار انبیاء، محمد مصطفیٰ ﷺ کی خدمتِ اقدس میں بخوبیم کا ایک شخص آکر عرض گزار ہوا۔ ائمّہ دُو مَالٍ كَثِيرٍ وَدُو أَهْلٍ وَوَكِيدٍ وَحَاضِرَةٌ فَأَخْبَرُنِي كَيْفَ أَنْفِقُ وَكَيْفَ أَصْنَعُ اے اللہ کے رسول ﷺ! میرے پاس نقدی اور مال کی کثرت ہے اور اولاد بھی خوب ہے۔ آپ مجھے یہ ارشاد فرمائیں کہ میں اپنے مال کو کس جگہ اور کس طرح خرچ کروں؟

تو رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: تم اپنے مال کی زکوٰۃ نکالا کرو کیونکہ زکوٰۃ پاک کرنے والی ہے وہ تجھے پاک کر دے گی۔ اور اپنے قریبی رشتہ داروں

رسول اکرم ﷺ کی 125 صفحہ پر

کے ساتھ صلہ رحمی کرتے رہو۔ نیز سائل پڑوی اور نہایت کے حقوق بھی ادا کرتے رہو۔ (یعنی ان کا تمہارے مال میں جو حق ہے وہ ادا کرتے رہو) فَقَاتِ الْفُرْبَنِ حَقَّهُ وَالْمُسْكِنَ وَاهْبَنَ السَّبِيلَ وَلَا تُبَدِّرْ تُبَدِّرْ يُوْمًا۔ آپ ﷺ نے یہ آیت پڑھ کر سنائی۔ ترجمہ: پس دو قرابت دار کو اس کا حق، اور مسکین و مسافر کو بھی اور فضول خرچیوں میں [اپنا مال] نہ اڑاؤ۔ اس نے کہا: بس یہ میرے لیے کافی ہے۔

..... مند احمد

۳۴) **تیری زبان ذکر اللہ میں مصروف رہے**

جانشیروں رسول عربی، سیدنا عبداللہ بن بُرَّ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بارگاہ رسالت میں ایک شخص نے آکر یہ عرض کی: اے اللہ کے رسول ﷺ!

((إِنَّ شَرَاعَةَ الْإِسْلَامِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيَّ فَأَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ أَتَشَبَّهُ بِهِ قَالَ لَا يَزَالُ إِسَانُكَ رَطْبًا مَنْ ذُكِرَ اللَّهُ))

شریعت اسلامیہ کے احکام تو میرے لیے بہت سے ہیں۔ آپ مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیجئے جس پر میں خوبی سے کار بند ہو جاؤں۔ تو رسول رحمت ﷺ نے فرمایا: تیری زبان ہمیشہ یادِ الہی میں مصروف رہے۔

..... ترمذی شریف، کتاب الدعوات

۲۹ پھر اس پر ڈٹ جاؤ

سیدنا سقیان بن عبد اللہ ثقیفی رض فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ
سے عرض کی.....

((حَدَّثْنِيُّ بَأْمُرٍ أَعْتَصِمُ بِهِ))

کہ مجھے کوئی ایسی چیز بتا میں جسے میں مضبوطی سے تمام لوں آپ ﷺ نے
فرمایا: کہو میرا رب اللہ ہے اور پھر اس پر ڈٹ جاؤ۔ میں نے عرض کی: کوئی ایسی
چیز بتائیے کہ جس کے بارے میں آپ میرے لیے اندر یہہ محسوس کرتے ہیں.....

((فَأَخَدَ بِلِسَانِ تَفْيِيهِ ثُمَّ قَالَ هَذَا))

تو سرور دو عالم ﷺ نے اپنی زبان مبارک پکڑ کر فرمایا: اس کو اپنے قابو
میں رکھو۔

- ترمذی شریف، کتاب الزحمد

۳۰ اپنے ہمسفر کے لیے خصوصی تحفہ

رسول اللہ کے ہمسفر سیدنا صدیق اکبر رض نے عرض کیا: اے اللہ کے نبی
ﷺ! صح و شام پڑھنے کے لیے مجھے کچھ ارشاد فرمادیجئے!

تو آپ ﷺ نے انہیں یہ دعا سکھائی.....

((اللَّهُمَّ كَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ رَبَّ
كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكُهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ

نَفْسِي وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَنِ وَشُرُّ كِه)

ترجمہ: اے اللہ! آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والے! ہر پوشیدہ اور ظاہر چیز کے جاننے والے! ہر چیز کے رب اور مالک! میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی مجبود نہیں۔ میں تجھ سے اپنے نفس کے شر سے اور شر شیطان اور اس کے شرک سے پناہ چاہتا ہوں۔

ابوداؤ دشیریف، کتاب الادب

۳ دنیا کو مقصد زندگی نہ بناؤ

رسول اللہ ﷺ نے اپنے پیارے صحابی حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو بڑی شفقت سے کندھے سے کپڑہ کر اپنی جانب متوجہ کیا اور فرمایا:

((كُنْ فِي الدُّنْيَا كَائِنَكَ غَرِيبٌ أَوْ غَابِرٌ سَيِّلٌ وَعُذَّ نَفْسَكَ مِنْ أَهْلِ الْقُبُوْرِ))

تو دنیا میں اس طرح رہ، جیسے تو پر دلکی ہے یا مسافر اور اپنے ذات کو قبر والوں میں شمار کر۔

ترمذی شریف، کتاب الزحد

فائدہ: علماء نے لکھا ہے کہ اس حقیقت کو یوں سمجھا جائے کہ..... کشتی کے چلنے کے لیے پانی ضروری ہے اس کے بغیر کشتی کا چلنا محال ہے اور وہی پانی جو اسے چلنے کے لیے درکاز ہے وہ اگر کشتی کے اندر بھرنا شروع ہو جائے تو کشتی غرق ہو جائے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا اور اس کی ساری رونق انسان ہی کے لیے ہے

رسول اکرم ﷺ کی 125 صفحہ پر

انسان ان نعمتوں کو، ان اسباب کو استعمال کرے اس سے شریعت نہیں روکتی۔ اور شریعت جس سے روکتی ہے وہ یہ ہے کہ ان چیزوں کی محبت میں یا ان میں مشغولیت کی وجہ سے انسان اپنے رب تعالیٰ کو بھول جائے۔ اور اس کے احکام سے پہلو تھی کرنے لگے۔ روزی کی وہن میں رازق کو فراموش کر دینے سے منع فرمایا گیا۔ اور ہیں تو یہ ساری چیزیں انسان کے لیے۔ لیکن دل ان سے نہ لگایا جائے۔ اگر دل میں ان کی محبت آگئی، اور احکامِ الہی چھوٹنے لگئے تو جان لو کہ پانی کشی کے اندر آگیا ہے اور اب کشتی ڈوب جائے گی۔ لہذا دنیا کو مقصدِ زندگی بنائے کہ انسان نہ جئے بلکہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کو زندگی کا مقصد و حیدز بنائے۔

۳۳ اللہ کو یہ کلمہ بہت پسند ہے

سید الرسل، نبی آخرالزمان حضرت محمد رسول اللہ ﷺ اپنے پیارے صحابی، سیدنا ابوذر ؓ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں : **آلا أُخْبُرُكَ بِأَحَبِّ الْكَلَامِ إِلَى اللَّهِ** ۔

کیا میں تجھے اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ کلمہ نہ بتاؤں؟ میں نے کہا اللہ کے رسول ﷺ! ضرور بتائیے! تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: **إِنَّ أَحَبَّ الْكَلَامَ إِلَى اللَّهِ مُسْبَحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ** ۔ بے شک سبحان اللہ و بحمدہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ کلمہ ہے۔

مسلم شریف، کتاب الذکر

﴿۱﴾ اپنے مال سے محبت یا وارثوں کے مال سے؟

حضرت عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک روز اپنے اصحاب سے فرمایا: **أَيُّكُمْ مَالٌ وَارِثٌهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ** تم میں سے وہ کون شخص ہے جسے اپنے مال سے زیادہ اپنے وارثوں کے مال سے محبت ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: **مَا مِنَّا أَحَدٌ إِلَّا مَالُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِ وَارِثِهِ** ہم میں سے ہر ایک کو اپنا مال ہی محبوب ہے وارثوں کے مال سے کچھ غرض نہیں۔ جب صحابہ یہ کہہ چکے تو حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ نے یوں فرمایا:

(فَإِنَّ مَالَهُ مَا قَلَمَ وَمَا لَهُ وَارِثٌ مَا آخَرَ)

سنو! آدمی کا مال تو صرف وہی ہے جو اس نے (اللہ کی راہ میں خرچ کر کے) آگے (آخرت میں) بھیج دیا۔ اور جو مال اس نے پیچھے چھوڑا وہ تو اس کے وارثوں کا ہی ہے۔

..... بخاری شریف، کتاب الرقاق

فائدہ: جب یہ معلوم ہو گیا کہ ہر ایک شخص کو اپنا مال ہی عزیز ہے تو آپ ﷺ نے یہ سمجھایا کہ آدمی نے اللہ کی رضا پانے کے لیے، آخرت میں اجر پانے کے واسطے جو مال خرچ کیا دراصل وہ مال اس کا اپنا ہے۔ اس سے محبت کی جائے اسے بڑھایا جائے۔ اور جو مال کہ دنیا میں اسے جوڑ جوڑ کر یا جمع کر کے رکھا جائے اور راہِ خدا میں خرچ نہ کیا جائے تو گویا یہ اپنے مال سے محبت نہیں۔ بلکہ وارثوں کے لیے جمع کیا جا رہا ہے۔

۳۴) وہ عمل بتائیئے جو جنت میں لے جائے

رسول اللہ ﷺ کے چھیتے صحابی، سیدنا معاذ بن جبل ؓ فرماتے ہیں کہ خوش قسمتی سے میں اپنے آقا کا ہمسفر تھا، راہ چلتے چلتے میں نے ایک روز آپ سے عرض کیا: اے رسول مکرم ﷺ! آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ (یعنی ایسا عمل جس کے کرنے سے مجھے جنت میں داخل کر دیا جائے اور جہنم سے بچالیا جائے) رسول کائنات ﷺ نے فرمایا: لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْ عَظِيمٍ اے معاذ! تم نے بہت بڑی بات پوچھی ہے لیکن یہ آسان بھی بہت ہے جس کے لیے اللہ آسان کر دے۔ لو سو!.....

• تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا

صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کوشش کیک نہ تھہراو۔

• وَتَفْعِلُ الصَّلَاةَ اور نمازِ ملجمگانہ قائم کرو۔

• وَتُؤْتِيِ الزَّكُوَةَ اور (سالاہ) زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔

• وَتَصُومُ الْمَضَانَ اور رمضان المبارک کے روزے رکھو۔

• وَتَحْجُجُ الْبُيُوتَ اور جب استطاعت ہو تو حجج بیت اللہ ادا کرو۔

..... ترمذی شریف، کتاب الایمان

۳۵) بھلائی کے دروازے

عذیز آقا محمد عربی ﷺ نے حضرت معاذ ؓ سے مخاطب ہو کر پھر

رسول اکرم ﷺ کی 125 وصیتیں
فرمایا..... آلا اَذْلَكَ عَلَى اَبْوَابِ الْخَيْرِ يَا میں تمہیں بھلائی کے دروازے
تلاؤں؟ (عرض کیا جی بتائیے)

فرمایا: الصَّوْمُ جُنَاحٌ روزہ (جہنم سے) بچاؤ ہے۔
وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ النَّحْرِيَّةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ
اور صدقہ گناہوں کی آگ کو یوں بجھادیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھادیتا
ہے۔

وَصَلَادَةُ الرَّجُلِ فِي جَوْفِ اللَّكِيلِ اور آدھی رات کو اٹھ کر نماز
پڑھنا۔

پھر آپ ﷺ نے یہ آیت مبارک تلاوت فرمائی:
﴿تَجَاهَفِي جُنُوبِهِمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّكَمْعًا
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ [المجدہ]

ترجمہ: ان نیکو کار لوگوں کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں اور وہ اپنے
رب تعالیٰ کو امید اور خوف (ہر حال میں) پکارتے ہیں اور جو کچھ ہم نے
انہیں دیا ہے اس میں سے (ہماری راہ میں) خرچ کرتے رہتے ہیں۔

..... ترمذی شریف، کتاب الایمان

۳۶ اسلام کی بنیاد اور چوٹی

مذکورہ صحابی سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ سے رسول کریم ﷺ ابھی چند قیمتی وصیتیں اور
ارشاد فرمائے ہیں..... آلا أَخْبِرُكَ بِرَأْسِ الْأَمْرِ وَعُمُودِهِ وَذُرُوَّةِ سَنَامِهِ

کیا میں تمہیں اس کام کی بنیاد، اس کا ستون اور اس کے کوہان کی چوٹی نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کی: آقا ضرور ارشاد فرمائیے! تو آپ ﷺ نے فرمایا: اس امر کی بنیاد اسلام ہے، اس کا ستون نماز ہے اور اس کی کوہان کی چوٹی جہاد ہے۔

ترمذی شریف، کتاب الایمان

۲۶ اس سارے سرمائے کی کنجی

جیسے جیسے شاگرد کی طلب بڑھتی گئی..... معلم انسانیت کا فیض فزوں تر ہوتا گیا۔ اور جوں جوں صحابی کا اشتیاق بڑھتا گیا..... نبوت کا ابیر کرم اور برستا گیا۔
فرمایا:.....

آلَّا أُخْبُرُكُ بِمِلَادِكَ ذَالِكَ كُلِّهِ

کیا میں تمہیں اس سارے سرمائے کی کنجی نہ بتاؤں؟

عرض کیا: جی ہاں! اے رسول کریم ﷺ، ضرور مہربانی فرمائیے!

فرمایا: كُفَّ عَلَيْكَ هَذَا وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ

آپ ﷺ نے اپنی زبان مبارک کی جانب اشارہ کرتے ہوئے سمجھایا کہ زبان کو قابو میں رکھو۔ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! کیا زبان سے کہی گئی ہمارے باتوں پر بھی موافق ہو گا؟..... آپ ﷺ نے شفقت سے فرمایا: تیری ماں تجھے کھوئے! بہت سے لوگوں کو زبان سے کہی گئی باتوں کی وجہ سے ہی دوزخ میں اونڈھے منہ ڈالا جائے گا۔

وضاحت: دراصل یہ ایک لمبی حدیث ہے میں نے اس کو چار اجزاء میں ذکر کیا

رسول اکرم ﷺ کی 125 میسین
ہے۔ محض اس وجہ سے کہ پڑھنے والے کی توجہ بڑھے۔ مثہلہ مثہلہ کر پڑھے
دل میں اترے۔ اور عمل کا داعیہ پیدا ہو۔
..... ترمذی شریف، کتاب الایمان

۳ روزانہ استغفار کیا جائے

ایک موقع پر رسول اکرم ﷺ نے اپنے بہت سے صحابہ کو مسجد میں جمع پایا تو
انہیں ان مختصر اور جامع الفاظ میں یوں وصیت فرمائی۔
(یَا أَهْبِهَا النَّاسُ اتُوْبُوا إِلَى اللَّهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ فَإِنَّمَا اتُوْبُ فِي
الْيَوْمِ مِائَةً مَرَّةً)

اے لوگو! اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ اور اس سے بخشش چاہو۔ میں بھی
روزانہ سن بار اس کریم رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔

..... مسلم شریف، کتاب الایمان

فائدہ: حضور نبی کریم ﷺ کی ذات مبارکہ تو گناہوں کے تصور سے بھی پاک تھی۔
پھر بھی آپ روزانہ 100 بار استغفار فرماتے تھے۔ کہاں ہم جو درے گناہوں کے
پلائے ہیں اور ہر خطا ہم میں موجود ہے ہمیں کس قدر استغفار اور بخشش کی
درخواست کرنی چاہیے۔

۴ دنیا و آخرت کی بھلائی اس میں ہے

تاجدار بدینہ، سرور قلب و سینہ، جناب رسول کریم آقاۓ روف و رحیم محمد

رسول اکرم ﷺ کی 125 وصیتیں

رسول اللہ ﷺ کے پاس ایک صحابی آئے اور عرض کی، اے رسول مکرم ﷺ! جب میں اپنے رب سے دعا کروں، اس کے سامنے جھوٹی پھیلاؤں اور اس سے مناجات کروں تو کیا چیز مانگوں؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: تو دعا یوں مانگا کر.....

((اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي))

اے اللہ! مجھے بخش دے، مجھ پر تور حم فرماء، مجھے عافیت عطا فرماء اور مجھے اچھا رزق عطا فرماء۔

((فَإِنَّ هُوَ لِإِنْجَامٍ لَكَ دُنْيَاكَ وَآخِرَتَكَ))

یہ دعائیے کلمات تجھے دنیا و آخرت کا سب کچھ دلا دیں گے۔

مسلم شریف، کتاب الذکر

⑤ یہ ول کی سختی کا سبب ہے

حضرت عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے احادیث رسول اللہ کا بہت سا حصہ مردی ہے۔ حفظِ حدیث کے حوالے سے یہ بہت سے صحابہ سے آگئے ہیں..... فرماتے ہیں کہ محبوب مکرم، رحمتِ دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ نے ایک موقع پر اپنے امتیوں کو بڑی اہم وصیت فرمائی آپ کے مبارک الفاظ یہ تھے.....

((لَا تُكْثِرُوا الْكَلَامَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ فَإِنَّ كُثْرَةَ الْكَلَامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ قُسْوَةً لِلْقَلْبِ وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ أَلْقَلْبُ الْقَاسِيِّ))

اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہٹ کر دنیوی باتوں میں زیادہ نہ لگو..... اس

لیے کہ دنیا کی باتوں سے دل کی سختی پیدا ہوتی ہے۔ اور سخت دل والا آدمی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بہت زیادہ دور ہو جاتا ہے۔

.....ترمذی شریف، کتاب الزهد

⑤ جنت میں اپنے حصے کا پودا لگاؤ

نبی رحمت کے ایک جلیل القدر شاگرد، سیدنا ابو ہریرہ رض ایک پودا لگا رہے تھے آپ ﷺ کا ادھر سے گزر ہوا..... تو آپ نے پوچھا:

((إِنَّمَا أَكْبَارُ هُرَيْرَةَ إِنَّمَا الْأَذْنُ تَهْرُمُ فَلَمْ يَرَ مِنْ خَرَاسًا))

اسے ابو ہریرہ رض کیا لگا رہے ہو! فرماتے ہیں میں نے عرض کیا: حضور! ایک پودا ہے وہ یہاں لگانا چاہتا ہوں۔ آپ ﷺ نے یہ سننا تو ارشاد فرمایا: کیا میں تمہیں اس سے بہتر پودا نہ بتاؤں؟ سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر..... ان میں سے جو بھی پڑھو گے جنت میں تمہارے لیے اس پودے سے بہتر پودا یا ایک درخت لگادیا جائے گا۔

.....ابن ماجہ، کتاب الادب

فائدہ: رسول کریم ﷺ نے دنیا کی جانب سے توجہ ہٹا کر آخرت کی جانب اور دنیا کے افعال سے آخرت کے اعمال کی جانب ان کا رخ پھیر دیا۔ اور دنیا کی چیزوں سے محبت کرنے کی بجائے آخرت کی چیزوں سے محبت کا یہ سبق حضرت ابو ہریرہ کی وساطت سے پوری امت کو دیا ہے۔

۶۲ یہ خاص فرشتوں کی تسبیح ہے

آقائے دو جہاں ختنی مرتبت، حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ سے ایک موقع پر پوچھا گیا: آئی الْكَلَامُ أَفْضَلُ : حضور! (پڑھنے کے لیے) سب سے افضل کلمہ کونسا ہے؟ رسول رحمت ﷺ نے ارشاد فرمایا: مَا أَصْطَكْفُ اللَّهُ لِمَلَائِكَتِهِ أَوْ لِعِبَادِهِ وہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں اور اپنے بندوں کے لیے چنا ہے۔ اور وہ ہے سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ۔

مسلم شریف، کتاب الذکر والدعاء

فائدہ: صحیح بخاری شریف میں سے ذکر ہے کہ آپ ﷺ سے ایک صحابی نے پوچھا: مجھے پڑھنے کے لیے کوئی خاص چیز بتا دیجئے! آپ ﷺ نے فرمایا: کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جس کی وجہ سے ساری مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے؟ صحابی نے شدت اشتقاق سے عرض کیا: آقا! ضرور بتائیے! آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: وہ ہے..... سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ

صحیح بخاری کتاب الدعوات میں ایک اور حدیث پاک ہے کہ جو شخص صحیح و شام سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ ایک سو بار پڑھا کرے

((خَطَّكُتْ خَطَّكَيَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ))

تو اس کے گناہ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو معاف کردیے جائیں گے۔

محترم قارئین! یاد رہے کہ بخاری شریف کی آخری حدیث پاک اس

رسول اکرم ﷺ کی 125 صفحہ پر

سلسلے میں بڑی دلچسپ ہے، اللہ کے نبی ﷺ ارشاد فرماتے ہیں ہیں.....

دو جملے ایسے ہیں کہ

وہ زبان پر بڑے ہلکے سچکلے ہیں

میزان عدالت میں بہت بھاری ہیں

رب رحمٰن کے ہاں بہت پسندیدہ ہیں

اور وہ یہ ہیں.....

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمُ

⑤ جب قرضے اور دُکھیر لیں تو یہ پڑھنا

ایک النصاری صحابی سیدنا ابو امامہ بن شیخ مسجد میں بیٹھے تھے کہ رسول اکرم ﷺ تحریف لائے۔ آپ نے بڑے غور سے انہیں دیکھ کر استفسار فرمایا: اے ابو امامہ! میں تمہیں مسجد میں بیٹھا دیکھ رہا ہوں جبکہ یہ نماز کا وقت بھی نہیں ہے..... کیا معاملہ ہے؟ اے نبی رحمت ﷺ! مجھے قرضے اور دکھوں نے گھیر رکھا ہے۔ شفیق آقا اور کریم نبی ﷺ نے فرمایا: کیا میں تمہیں ایسے چند کلمات نہ سکھا دوں جو تم پڑھتے رہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے دکھ دور فرمادیں اور تمہارا قرض بھی چکا دیں؟ عرض کیا: جی آقا! ضرور ارشاد فرمائیے! فرمایا: صبح و شام یہ پڑھا کرو.....

((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمَّ وَالْعُزُّنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ

الْعَجْزِ وَالْكُسْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ

وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ خَلْبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ))

ترجمہ: اے اللہ! میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں ہر رنج و غم سے، اور میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں بخیل اور بزدی سے، اور میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں قرض میں ذب جانے سے اور لوگوں کے دباو میں آنے سے۔

سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: **قَعْلُتُ ذَالِكَ فَأَذْهَبَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ هَمَّيْ وَقَضَى عَنِّي دَيْنِي** میں اس دعا کو صبح و شام پڑھتا رہا یہاں تک کہ میرے دکھ دور ہو گئے اور میرا قرض بھی اتر گیا۔

ابوداؤ دشیریف

۵۲ اللہ پر ایمان رکھنے والا غور سے سنے!

حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد

فرمایا:

❶ **مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِنُهُ جَارَةً**
جو شخص اللہ تعالیٰ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے ہمسائے کو اذیت دینے سے باز رہے۔

❷ **مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَيُكْرِمْ ضَيْفَهُ**
جو شخص اللہ تعالیٰ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے مهمان کی تکریم کرے۔

❸ **مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لَيَضْمُنْ خَيْرًا**
جو شخص اللہ تعالیٰ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہو وہ ہمیشہ بھلی بات کہے یا

خاموش رہے۔

بخاری شریف، کتاب الادب

۵۵ لوگو! استخارہ کی اہمیت جانو!

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ میں اپنے کاموں کے لیے قرآن مجید کی سورتوں کی طرح استخارہ کی دعا بھی تعلیم فرمایا کرتے تھے۔

آپ ﷺ کا ارشاد ہے جب تم میں سے کوئی شخص کسی کام کا ارادہ کرے تو نمازِ فرض کے علاوہ دورکعت [استخارہ کی نیت سے] پڑھ لے اور پھر ان الفاظ میں دعائیں گے.....

((اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْيِرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِيرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَمُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرُ خَيْرٌ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاقْدِرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرُ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدِرْ لِي الْخَيْرَ حَتَّى كَانَ ثُمَّ ارْضِنِي بِهِ))

ترجمہ: اے اللہ! میں تیرے علم کے ذریعہ جعلی بات کا سوال کرتا ہوں اور تیرے بڑے فضل کا طالب ہوں تیری قدرت کے ساتھ۔ بے شک

تو ہی ساری قدرت رکھتا ہے اور مجھے کچھ قوت حاصل نہیں۔ تو سب کچھ جانتا ہے مجھے کچھ معلوم نہیں اور تو ہی سب غمجوں کا جانے والا ہے۔
 اے اللہ! اگر تیرے علم کے مطابق یہ کام [یہاں اپنے کام کا نام لے] یا دل میں سوچے [میرے لیے دینی اور معاشری اعتبار سے اور انجام کار کے لحاظ سے بہتر ہے تو میرے نصیب میں کر دے اور اسے میرے لیے آسان کر دے اور پھر اس میں میرے لیے برکت بھی ڈال دے۔
 اے اللہ! اگر تیرے علم کے مطابق یہ کام [یہاں پھر اپنے کام کا نام لے] یا دل میں سوچے [میرے لیے دینی اور معاشری اعتبار سے اور انجام کار کے لحاظ سے برا ہے تو اس کام کو مجھے سے دور کر دے اور مجھے اس سے دور فرمادے۔ اور میرے لیے جہاں اور جیسے تو چاہے تو خود بھلائی مقدر فرمادے۔ پھر مجھے اس پر مطمئن بھی کر دے۔

..... بخاری شریف

فائدہ: عموماً لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ ہمیں تو استخارہ میں کچھ نظر نہیں آتا ہے لوگوں کے لیے چند قسمی باتیں لکھ رہا ہوں۔ توجہ فرمائیں۔

بہتر یہ ہے کہ اس دعا کے پڑھ لینے کے بعد دنیاوی باتوں سے آدمی گرینز کرے اور ذکر کرتے ہوئے یا درود شریف پڑھتے ہوئے سوچائے۔ بستر کا پاک ہونا بھی ضروری امر ہے۔ یہ بات بھی سمجھ لیں کہ بعض اوقات خواب میں راہنمائی کر دی جاتی ہے اور بسا اوقات ایسا نہیں بھی ہوتا لہذا اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ علماء، اولیاء اللہ اور بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ اصل چیز تو دل کا

رسول اکرم ﷺ کی 125 صفحیہ کی
اطمینان ہے وہ حاصل ہو گیا تو استخارہ کا مقصود مل گیا۔ اور اگر استخارہ کرنے کے بعد دل اس کام سے بھر گیا، طبیعت کا میلان اوہر سے ختم ہو گیا تو پھر کچھ لجھے کہ یہی آپ کے استخارہ کا نتیجہ ہے۔

.....نالی، کتاب الاستغاثہ

۵۶ فجر کی سنتیں کسی حال میں نہ چھوڑو

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم، نبی رحمت ﷺ کو سنا..... آپ فرمائے تھے.....

((لَا تَدْعُوا الرَّاعِنِينَ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ فَإِنَّ فِيهَا الرَّعَابَ))

ترجمہ: فجر کی نماز سے پہلے کی دو رکعتوں کو نہ چھوڑو، ان میں بڑی عطا میں ہیں

.....الترغیب والترحیب

نیز ایک اور حدیث پاک مسلم شریف میں موجود و مذکور ہے جس کے القائل بھی بہت خوب اور بڑے پیارے ہیں..... فرمایا..... لَهُمَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الْكُنْيَةِ جَمِيعًا

فجر کی سنتیں تو مجھے ساری دنیا سے زیادہ پیاری ہیں۔ صحیح مسلم، کتاب الصلاۃ امام المؤمنین، حبیب حبیب کائنات، سیدہ عائشہ صدیقہؓ فیصلہ فرماتی ہیں۔

((مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ مِّنَ النَّوَافِلِ أَسْرَعَ مِنْهُ إِلَى

رسول اکرم ﷺ کی 125 صیتیں

الْوَكَعَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ)

سنتوں میں شب سے زیادہ سُرعت سے آپ ﷺ، سنتو فجر کی جانب متوجہ ہوتے تھے۔

..... مسلم شریف، باب صلاۃ المسافرین وقصر حا

۴۵ پانچ عظیم باتوں کی وصیت

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں رسول کریم ﷺ کی سواری پر آپ کے پیچھے سوار تھا..... آپ ﷺ نے میری جانب متوجہ ہو کر فرمایا:-

﴿ يَا غُلَامُ إِنِّي أُعِلِّمُكَ كَلِمَاتٍ

اے نوجوان! میں تمہیں چند باتیں سکھاتا ہوں خوب توجہ سے سنو!

﴿ إِحْفَظِ اللَّهَ يَعْفَظُكَ

تو اللہ تعالیٰ [کے حکموں] کی حفاظت کرتا رہ، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔

﴿ إِحْفَظِ اللَّهَ تَجْدِدَةً تُجَاهِلَكَ

تو اللہ تعالیٰ [کے حکموں] کی حفاظت کرتا رہ، تو اسے اپنے سامنے پائے گا۔

﴿ إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ جب کچھ مانگے تو اللہ سے ہی مانگ۔

﴿ إِذَا اسْتَغْفَلْتَ فَاسْتَغْفِلْ بِاللَّهِ اور جب مدد در کار ہو تو اللہ ہی سے مدد مانگ۔

رسول اکرم ﷺ کی 125 صیتیں

وَاعْلَمُ أَنَّ الْأَمَّةَ لَوْ اجْتَمَعْتُ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ
إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ

اور یہ جان لے کہ ساری دنیا سمجھے فائدہ پہنچانا چاہے تو اس کے علاوہ کچھ
فائده نہیں پہنچا سکتی جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے۔

وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضْرُرُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضْرُرُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ
كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ.....

اور اگر ساری دنیا سمجھے نقصان پہنچانا چاہے تو اس کے علاوہ کچھ نقصان نہیں
پہنچا سکتی جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے۔

((رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحْفُ))

قلم اٹھا لیے گئے اور اوراق خشک ہو چکے۔ یعنی جو لکھا جانا تھا وہ لکھا جا
چکا اور محفوظ بھی کر لیا گیا

.....ترمذی شریف، کتاب صفة القيامة

۵۸ اس کے برابر کوئی عمل نہیں

امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ سے سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں
اے رسول برحق! مجھے کسی کام کا حکم فرمائیے! آپ ﷺ نے فرمایا:

((عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَا يَعْدُ لَهُ، قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَ
مُرْنِي بِعَمَلٍ قَالَ عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَا يَعْدُ لَهُ، قُلْتُ يَا رَسُولَ
اللَّهِ عَلَيْكَ مُرْنِي بِعَمَلٍ قَالَ عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ))

رسول اکرم ﷺ کی 125 صفحیں

روزہ رکھا کرو، اس کے برابر کوئی عمل نہیں۔ میں نے عرض کیا مجھے مزید کسی کام کا حکم فرمائیے آپ نے پھر فرمایا: روزہ رکھا کرو اس کے برابر کوئی عمل نہیں۔ میں نے تیرتی مرتبہ عرض کیا: حضور! مجھے کسی کام کا حکم فرمائیے! آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: روزہ رکھا کرو، اس کے مثل اور کوئی عمل نہیں۔

ناتی، کتاب الصیام

④ صدقہ آخرت کی ہولناکی سے بچائے گا

سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جبیبر خدا، تاجدار انبياء، محمد ﷺ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا:

((كُلُّ أَمْرٍ يُفْرَضُ فِي ظَلَّ صَدَقَتِهِ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ))

ہر آدمی (میدان محشر میں) اپنے صدقہ کے ساتے میں رہے گا یہاں سک کر لوگوں کے درمیان فیصلے کر دیے جائیں۔

مند احمد، ابن خزیمہ، حاکم

⑤ میں تین چیزیں قسم کھا کر پیان کرتا ہوں

سیدنا ابوکعبہ آنماری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے محبوب حضرت محمد ﷺ سے سنا..... آپ لوگوں سے فرمائے تھے:

((فَلَاثُ أُقْرِيمُ عَلَيْهِنَّ، وَأَحَدِنُكُمْ حَدِيثًا فَاخْفَظُوهُ))

رسول اکرم ﷺ کی 125 میتھیں میں تین چیزیں قسم کھا کر بیان کرتا ہوں۔ اور ایک بات بھی تمہیں بتارہا ہوں، سنو اور یاد کرو!

١) مَا نَقْصَنَ مَالُ عَبْدٍ مِّنْ صَدَقَةٍ
صدقة کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔

٢) وَلَا ظُلْمٌ عَبْدٌ مَظْلَمَةً لَفَسَبَرَ عَلَيْهَا إِلَّا رَأَدَهُ اللَّهُ عِزَّا
جس پر ظلم ہوا اور وہ پی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت ضرور پڑھادیتے ہیں۔

٣) وَلَا كَفَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسَأْلَةٍ إِلَّا فَكَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ
اور جو بندہ سوال کرنے لگئے تو اللہ تعالیٰ اس پر تنگدستی کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔

(فرمایا..... نیز ایک اور بات کہتا ہوں، توجہ سے سنو!)

اس دنیا میں چار قسم کے افراد ہیں:

٤) عَبْدٌ رَّزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَعِلْمًا ، فَهُوَ يَتَقْنُ فِيهِ رَبَّهُ وَيَصِلُ فِيهِ رَحْمَةً ،
وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًا ، فَهُدَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ
ایک آدمی ایسا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال بھی دیا اور علم بھی، اور وہ اس بارے میں اپنے رب سے ڈرتا ہے، صدر حی بھی کرتا ہے اور اللہ کا حق بھی ان چیزوں میں پہچانتا ہے پس یہ شخص سب سے اوپنچے درجہ والا ہے۔

٥) وَعَبْدٌ رَّزَقَهُ اللَّهُ عِلْمًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ يَقُولُ لَوْ
آن لی مالا کعیمل بعما فکلان، فھو بنیته، فاجر هما سواء

رسول اکرم ﷺ کی 125 صفحہ کی

دوسرा آدمی ایسا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم تو عطا فرمایا لیکن مال اسے نہیں دیا، اور یہ درست نیت رکھتے ہوئے کہتا ہے کاش! میرے پاس بھی مال ہوتا تو مذکورہ آدمی کی طرح میں بھی اچھے عمل میں خرچ کرتا، چونکہ اس کی نیت خالص ہے اس لیے یہ درجے میں پہلے شخص کے برابر ہے۔

وَعَبْدٌ رَّزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْمًا يَخْبِطُ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، وَلَا يَتَّقِنُ فِيهِ رَبَّهُ وَلَا يَصِلُ فِيهِ رَحْمَةً، وَلَا يَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًا، فَهَذَا بِإِخْبَرِ الْمَنَازِلِ

تیرا آدمی وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مال تو دیا علم نہیں دیا، لیکن وہ اپنے مال کو علم نہ پانے کے سبب فضول اڑاتا ہے، اس پارے میں اپنے رب سے نہیں ڈرتا، نہ اس مال سے صلح رحمی میں خرچ کرتا ہے اور نہ ہی اللہ کا حق ان چیزوں میں پہچانتا ہے، پس یہ شخص سب سے بُرے درجہ والا ہے۔

وَعَبْدٌ لَمْ يَرْزُقْهُ اللَّهُ مَالًا وَلَا عِلْمًا فَهُوَ يَقُولُ لَوْ أَنْ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ بِعَمَلٍ قُلَّا، فَهُوَ بِنِيَّتِهِ، فَوِزْرُهُمَا سَوَاءٌ

چوتھا آدمی وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا نہ علم بخشا، وہ کہتا ہے کاش! میرے پاس بھی مال ہوتا تو فلاں آدمی کی طرح میں بھی اڑاتا، چونکہ اس کی نیت بُری ہے اس لیے یہ درجے کے اعتبار سے اس بدترین شخص کے برابر ہے۔

.....ترمذی، وابن ماجہ فی کتاب الزحد

۶۱ میرا مال کون سا ہے؟

حضرت ابو ہریرہ ؓ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:
 ((يَقُولُ الْعَبْدُ : مَا لِي مَالٌ أَوْ أَنَّمَالَهُ مِنْ مَا لِهِ تَكَلُّفٌ))
 آدمی کہتا ہے یہ بھی میرا مال، یہ بھی میرا مال ہے۔ اس کا مال تو صرف
 یہی تین طرح کا ہے ..

ما أَكَلَ فَأَفْتَنَى جواس نے کھا کر ختم کر دیا ✿
 أَوْ لَبِسَ فَأَبْلَغَى جواس نے پہن کر پرانا کر دیا ✿
 أَوْ أَعْطَى فَأَقْتَنَى یا جواس نے اللہ کی راہ میں دیا اور ذخیرہ کر لیا۔ ✿
 ((وَمَا يُسَاوِي ذَالِكَ فَهُوَ ذَاهِبٌ وَّتَارٌ كُلُّهُ لِلنَّاسِ))

اور جوان تین قسموں سے علاوہ ہے انسان اسے عنقریب دوسروں کے
 لیے چھوڑ کر ملک عدم کو رواتہ ہونے والا ہے۔

مسلم شریف، کتاب الرهد والرقائق

۶۲ کون سا ہدیہ قبول کیا جائے؟

حضرت خالد بن عدنی چہنئی ؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ
 سے سنا..... آپ فرماتے ہے تھے.....

((مَنْ كَلَفَهُ عَنْ أَخْيَهِ مَعْرُوفٌ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلَا إِشْرَافٍ لِنَفْسٍ
 فَلْيَقْبِلْهُ وَلَا يَرْدَأْهُ))

رسول اکرم ﷺ کی 125 صیغہ

جس آدمی کو اپنے کسی بھائی، دوست کی جانب سے نیکی کا کوئی ہدیہ ملے جس کا اس نے سوال بھی نہ کیا ہوا اور دل میں اس کے بارے میں لائج بھی پیدا نہ ہوا ہو..... تو وہ قبول کر لے، رد نہ کرے۔ اس لیے کہ

((فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهِ))

وہ ایسا رزق تھا جو اللہ تعالیٰ عز وجل اسے پہنچانے چاہتے ہیں۔

طبرانی، مندرجہ، ابن حبان

۳۳ دلوں کے بگاڑ کا ایک سبب

سیدنا نعمن بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو فرماتے سن.....

((كُتُسُونَ صُفُوقُكُمْ أَوْ لِيُخَالِفَنَ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ))

تم اپنی صفائیں (نماز کے لیے) ضرور سیدھی کیا کرو نہیں تو اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو ایک دوسرے کا مخالف کر دیں گے۔ یعنی تمہارے دلوں میں باہم بگاڑ پیدا کر دیں گے۔

بخاری شریف، موطا امام مالک، کتاب الصلوۃ

۳۴ دورانِ نماز آسمان کی جانب دیکھنا

سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا.....

((مَا بَالْ أَقْوَامُ يَرْكَعُونَ إِبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي صَلَاتِهِمْ [فَأَشَدَّ قَوْلُهُ فِي ذَالِكَ حَتَّى قَالَ [لَيْسُوا هُنَّ عَنِ ذَالِكَ أَوْ لَتُخْطَلُنَّ

بَصَارُهُمْ))

لوگوں کو کیا ہوا کہ یہ اپنی نظریں دوران نماز آسمان کی جانب کیوں اٹھاتے ہیں؟ پھر آپ نے اس بارے میں بہت سخت بات ارشاد فرمائی کہ یہ لوگ اس سے باز آ جائیں ورنہ ان کی لگائیں اچک لی جائیں گی۔

..... بخاری شریف، کتاب الأذان۔ ابو داؤد، کتاب الصلوٰۃ

۶۵ دوستی کا معیار سمجھو

رسول کریم ﷺ کے پیارے صحابی حضرت ابو هریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں..... کہ حبیب خدا ﷺ نے فرمایا:

((الرَّجُلُ عَلَى دِيْنِ خَلِيلِهِ فَلَيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ))

آدمی اپنے دوست کے دین پر چلتا ہے پس تم میں سے ہر ایک دیکھ لے کہ وہ کس کے ساتھ دوستی لگا رہا ہے۔

..... ترمذی، کتاب الزحد۔ ابو داؤد شریف، کتاب الادب

فائدہ: یہ مسلم بات ہے کہ آدمی دوستوں کی بات مانتا ہے ان کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے کسی اچھے یا بُرے دوست کے ساتھ وفاداری نبھاتے ہوئے اس کا ہم خیال ہو جاتا ہے۔ لہذا دین کا تقاضا یہ ہے اور رسول کریم ﷺ کے اس ارشاد کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی ہمیشہ اچھے عقیدہ اور سچے عمل والے آدمی سے دوستی لگائے۔ یعنی دوست بنانے نے پہلے یہ سوچ لے کہ میں کس کو دوست بنارہا ہوں..... تاکہ بعد میں کہیں یہ دوستی اس کے لیے دین کی دوری کا سبب نہ بن جائے۔

۴ پھر دنیا تمہارا پچھہ نہیں بگاڑ سکتی

ہمارے کریم آقا کے ایک جاثر حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان عالیشان ہے کہ
 ((أَرْبَعٌ إِذَا سُكِّنَ فِيْكَ فَلَا عَلَيْكَ مَا فَاتَكَ مِنَ الدُّنْيَا))

جب تجھے میں چار خوبیاں موجود ہوں تو دنیا اور احل دنیا خواہ پچھے بھی کر لیں تجھے پچھے نقصان نہیں پہنچا سکتے
 ((حِفْظُ أَمَانَةٍ وَّ صِدْقَ حَدِيثٍ وَّ حُسْنُ خَلِيقَةٍ وَّ عَفَةً فِي طُهْرٍ))

۵ امانت کی حفاظت کرنا ہر حال میں سچی بات کہنا اپنے اخلاق سے پیش آنا اور پاک دامنی اختیار کرنا۔

..... مسند احمد

۶ نفاق سے بچو!

مذکورہ بالاصحابی سیدنا حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہی روایت فرماتے ہیں
 ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَرْبَعٌ مَنْ سُكِّنَ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدْعُهَا إِذَا أُوتِمَّ خَانَ وَإِذَا حَدَّثَ كَذِيبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ))

رسول اکرم ﷺ کی 125 دھنیتیں
کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: چار خصلتیں جس شخص میں پائی جائیں وہ پکا منافق ہے۔ اور جس میں ان میں سے ایک خصلت پائی جائے یقیناً اس میں بھی نفاق پایا جا رہا ہے۔ یہاں تک کہ وہ اس خصلت کو چھوڑ دے۔

﴿ جب اسے امانت سوچی جائے تو خیانت کرے۔ ﴾

﴿ جب بات کرے تو اس میں جھوٹ کی آمیزش ہو۔ ﴾

﴿ جب معاهدہ کرے تو دھوکہ دے جائے۔ ﴾

﴿ جب جھڑا کرے تو گالی گلوچ پر اتر آئے۔ ﴾

..... بخاری، کتاب الایمان، مسلم، ترمذی

٦٨ سرِ شام بچوں کو باہر نہ نکلنے دو

رسول کریم روف و رحیم حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کے پیارے صحابی حضرت جابر بن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آقا ﷺ کو یہ فرماتے سن.....
نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ سرِ شام چھوٹے بچوں کو گھر سے باہر نہ نکلنے دو،
(فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يُنَشِّرُ حِينَئِذٍ)

اسلئے کہ اس وقت شیاطین نکل پڑتے ہیں اور پھیل جاتے ہیں، جب کچھ رات گزر جائے تو چھوڑ دیعنی بچوں کو جانے دیا جاسکتا ہے۔

(وَأَذْكُرُوا أَسْمَ اللَّهِ كَفَنَ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحْ بَابًا مُفْلَقًا)

اور سوتی وقت بسم اللہ کہہ کر دروازے بند کرو، اس لیے کہ نام اللہ کے

ساتھ بند کیا ہوا دروازہ شیطان نہیں کھول سکتا۔

اور بسم اللہ کہہ کر ہی مشکیزوں کا منہ باندھ دو اور بسم اللہ کہہ کر ہی (کھلے) برتن ڈھکو، اگر کچھ نہ ہو تو کوئی بھی چیز برتن کے اوپر رکھ دو (تاکہ شیطان کے اثر سے محفوظ رہے) اور بسم اللہ کہہ کر ہی چراغ بجھاؤ۔

..... مسلم شریف، کتاب الاشرب۔ بخاری، کتاب بدء الخلق

۴۹ وہ مجلس باعثِ حسرت رہے گی

معالم انسانیت کے عظیم شاگرد، سیدنا ابوذر ریہ ؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:.....

((مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرُوا اللَّهَ فِيهِ وَلَمْ يُصَلِّوْا عَلَى نَبِيِّهِمْ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةٌ فَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ))
جو لوگ کسی ایسی مجلس میں بیٹھیں جس میں وہ اللہ وحده لا شریک کا ذکر اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد ﷺ کا تذکرہ نہ کریں اور نہ ہی درود شریف پڑھیں تو وہ محفل و مجلس ان کے لیے خسارے کا باعث ہوگی پھر اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو انہیں عذاب دے اور اگر چاہے تو انہیں بخش

۔۔۔

..... مخلوۃ شریف، ترمذی کتاب الدخوات

اللہ اے مسلمانو!

ہمیں اپنی تمام مجالس و محافل میں ذکر باری تعالیٰ اور تذکرہ حبیب پاک ﷺ

رسول اکرم ﷺ کی 125 صیتیں
کو جگہ دینی چاہئے۔ اور اپنی مجالس کو نقصان اور خر ان کا سامان نہیں بنانا چاہیے۔

۴) ایک خاص دعا کی وصیت

رسول کریم کے رفیق سفر و حضر، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بنے اپنے پیارے آقا سے عرض کی:.....

((عَلِّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلَاةٍ))

مجھے کوئی ایسی دعا بتائیے کہ جسے میں اپنی نماز میں پڑھا کروں تو آپ ﷺ نے انہیاء کے بعد سب سے عظیم انسان کو یہ مبارک اور مقدس دعا سکھایی۔ [جسے وہ التحیات اور درود شریف کے بعد پڑھا کرتے تھے]
((اللَّهُمَّ إِنِّي ظلمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ اللَّهُ لِلذُّنُوبِ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَأَرْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ))

اے اللہ میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا تیرے سوا گناہوں کو بخشنے والا کوئی نہیں تو مجھے بخش دے بخش تیرے پاس ہے اور مجھے پر رحم فرماء بے شک تو ہی بخشندہ والامہ ربان ہے

..... بخاری کتاب الأذان، مسلم، کتاب الذکر والدعاء

۵) دو آیات اور حفاظت از جمیع مصائب و آفات

سید الکوئین کے شاگرد حضرت ابو مسعود بدرا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول

رسول اکرم ﷺ کی 125 صیتیں

اطہر علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ.....

((مَنْ قَرَأَهُمَا فِي لَيْلَةٍ كَفَاهُ))

جو آدمی سورت بقرہ کی آخری دو آیات رات کو سوتے وقت تلاوت کرے گا وہ دونوں اسکو کافی ہو جائیں گی (یعنی تمام آفات و مصائب سے حفاظت کے لیے کافی گی)

بخاری شریف، کتاب المغازی

سورہ بقرہ کی آخری دو آیات ملاحظہ ہوں :.....

«آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ آمَنَ
بِاللَّهِ وَمَمْلَأَ لِكُبِيرِهِ وَكُبُرُهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ
وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ۝ لَا يُكَلِّفُ
اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا
تُؤَاخِذنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تُعَلِّمْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا
حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا كَافِةً لَنَا بِهِ
وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ
الْكَافِرِينَ ۝»

ترجمہ: اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جوز میں میں ہے اور تم اپنے دل کی بات کھولو یا اس کو چھپاو اللہ اس کا حساب تم سے لے گا پھر جس کو وہ چاہے گا مجذش دے گا اور جس کو چاہے گا عذاب کرے گا اور

اللہ سب کچھ کر سکتا ہے یہ پیغمبر (یعنی محمد) ایمان لائے اس کتاب پر جو ان کے مالک کی طرف سے ان پر اتری اور (ان کے ساتھ) مسلمان بھی سب ایمان لائے اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اور اس کے رسولوں پر ہم اس کے کسی پیغمبر کو جدا نہیں سمجھتے اور کہتے ہیں (اے پروردگار) ہم نے (تیرا ارشاد) نا اور مان لیا، ہم تیری بخشش چاہتے ہیں اے ہمارے مالک، ہم نے تیری طرف، ہی لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ کسی شخص پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر جتنا وہ اخھا سکے جو اس نے اچھا کیا اسی کو فائدہ ہو گا جو برآ کام کیا اسکا وبال اسی پر پڑے گا اے رب ہماری بھول چوک پر ہم کو مت پکڑ، اے پروردگار! ہم سے پہلے لوگوں پر تو نے جو بھاری بوجھ ڈالتا تھا ویسا ہم پر مت ڈالنا، پروردگار! جس کے اخھانے کی ہم میں طاقت نہیں وہ بوجھ ہم نے سے مت اخھوا، ہم سے عفو و درگزر والا معاملہ فرم اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہم پر رحم فرم، تو ہی ہمارا مد دگار ہے۔ نیز تو ہمازی مدد فرم اکافروں کی قوم پر نیز رسول حکم ﷺ کا ارشادِ گرامی ہے:.....

سورۃ البقرہ کا اختتام [آخری دو آیات] اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ان خزانوں میں سے ایک بڑا خزانہ ہیں جو عرش کے پیچے موجود ہیں اور دنیا و آخرت کی ساری بھلائیاں اس میں جمع ہیں۔

..... دارمی شریف، کتاب فضائل القرآن

۴۳ آیتِ الکری کو اپنا معمول بناؤ

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک طویل حدیث میں مروی ہے جب تو اپنے بستر پر آئے تو آیتِ الکری پڑھ لیا کر، اللہ کی طرف سے ایک محافظ فرشتہ رات بھر تیرے ساتھ رہے گا اور صبح تک شیطان تیرے قریب نہیں پہنچے گا۔

..... بخاری شریف کتاب الوکالہ

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول مکرم ﷺ کا ارشاد بتلاتے ہیں کہ
 ((لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ وَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ الْبَقَرَةُ لَا
 يَدْخُلُهَا الشَّيْطَانُ))

تم اپنے گھروں کو قبرستان ہی نہ بنالو۔ بے شک جس گھر میں سورہ بقرہ بتلات کی جائے وہاں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ یعنی قبرستان والوں کی طرح پڑے ہی نہ رہو یہ اعمال کیا کرو۔

..... بخاری شریف، کتاب فضائل القرآن

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے اور قرآن پاک کی چوٹی سورہ بقرہ ہے۔ اور.....

((فِيهَا آيَةٌ هِيَ مَيْدَةٌ أَيِ الْقُرْآنِ هِيَ آيَةُ الْكُجُرِ مِنْهُ))

اس میں ایک آیت ایسی ہے جو قرآن پاک کی سب آیات کی سردار ہے اور وہ آیتِ الکری ہے۔ ترمذی شریف، کتاب فضائل القرآن

آیت الکریمی

﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَقُّ الْقَيُومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا تَنُومُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَوْدَعُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾

(سورہ آل عمران/255)

ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی معبد برحق نہیں وہ زندہ اور قائم رہنے والا ہے نہ اسے اونگھ آتی ہے اور نہ نینداہی کے لئے ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے کون ہے جو اس کے ہاں سفارش کرے اس کی اجازت کے بغیر وہ جاتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے اور وہ اس کے علم سے کسی چیز کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے مگر جو وہ چاہے اس کی کری آسمانوں اور زمین کو وسیع ہے اور اسے ان دونوں کی حفاظت تھکاتی نہیں اور وہ بلند تر عظمت والا ہے۔

۴۵ بستر جھاڑ کر سویا کریں

سیدنا ابو ہریرہ رض سے منقول ہے کہ نبی عربی، رسول کی دمدنی جانب محمد رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب کوئی شخص اپنے بستر سے اٹھے پھر آئے تو اپنے تہبند

رسول اکرم ﷺ کی 125 صیحت میں
کے پلو کے ساتھ اسکو تین مرتبہ جھاڑے وہ نہیں جانتا کہ اسکے پیچے کیا چیز بستر پر آگئی ہو۔ پھر یہ دعا پڑھے۔

((بِاسْمِكَ رَبِّي وَضَعْتُ جَنْبِي وَلِكَ أَرْفَعْهُ إِنْ أَمْسَكْتُ نَفْسِي
فَارْحَمْهَا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاخْفَظْهَا بِمَا تَعْفَظُ إِنْ عِبَادَكَ
الصَّالِحِينَ))

اے میرے رب میں نے تیرے نام کے ساتھ اپنا پہلو رکھا اور تیری ہی مدد سے اسے اٹھاؤں گا اگر تو میری جان روک لے تو اس پر رحم فرم اور اگر تو اسے چھوڑ دے تو اسکی اس طرح حفاظت کر جس طرح تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔

..... بخاری، مسلم شریف
نیز سونے کا ایک اور ادب بھی آج ہے اپنی امت کو سکھایا ہے وہ یہ کہ جب آپ بستر پر آئیں تو دونوں ہاتھوں کو جوڑ لیں اور پھر سورہ اخلاص، فلق اور الناس پڑھ کر ہاتھوں پر پھونک لیں اور اپنے جسم پر جہاں تک ہو سکے انہیں پھیر لیں اور پھیرنے کی ابتداء سر چہرے اور جسم کے انگلے حصے سے کریں یہ عمل آپ تین بار کریں۔

..... بخاری شریف، کتاب فضائل القرآن، مسلم شریف

۴۵) بُرُّ أَخْوَابٍ كُسْيَى كَمْ كَمْ نَهَى بِيَانَ نَهَى كَيْا جَانَى
سیدنا ابو سعید خذراوی رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ

کو یہ فرماتے سن آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اچھا خواب دیکھے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے اس پر الحمد لله کہے اور اسے بیان کرے اور ایسا خواب صرف اس سے بیان کرے جس سے اس کو محبت ہو اور جب ناپسندیدہ خواب دیکھے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے اس سے پناہ مانگے اور اس خواب کو کسی کے سامنے بیان نہ کرے بے شک وہ اسے نقصان نہیں دے گا۔

..... بخاری شریف، ترمذی، منذ احمد

۶۵ جب کوئی مصیبت آپڑے تو یہ پڑھا کرو

سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے رسول اللہ ﷺ نے ان کلمات کی تلقین فرمائی اور حکم دیا کہ اگر مجھے کوئی سخت مصیبت یا تکلیف پہنچے تو یہ کلمات کہا کر.....

((لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْكَرِيمُ الْحَلِيمُ سُبْحَانَهُ، تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ
الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ))

اللہ کریم بردبار کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں میں اس کی تبعیج بیان کرتا ہوں۔ اللہ عرش عظیم کا رب برکت والا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جو دونوں جہانوں کا پروردگار ہے۔

عبداللہ بن جعفر ان کلمات کی تلقین فرماتے تھے اور بخار و اسلی آدمی پر پڑھ کر پھونکتے تھے اور اپنی ان بیٹیوں کو سکھلاتے جن کی شادی قربی رشتہ داروں کے علاوہ کرتے تھے۔

مند احمد، موارد اطمأن۔

۶۱ ذکھ اور بے قراری کے وقت یوں پڑھو

سیدہ اسماء بنت عمیس رض سے مردی ہے کہ مجھے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کیا میں تجھے ایسے کلمات نہ سکھاؤں جنہیں تو ذکھ اور بے قراری کے وقت پڑھے (عرض کی آقا ضرور سکھائیے!) آپ نے فرمایا ((اللَّهُ أَللَّهُ رَبِّيْ لَا أُشْرِكُ بِهِ شِئْنَا))

اللہ ہی اللہ میر ارب ہے میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا / بناتا

ابوداؤ دشیریف، ابن ماجہ

۶۲ مچھلی والے پیغمبر کی عظیم دعا

سیدنا سعد بن ابی وقاص رض سے مردی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ذوالنون (مچھلی والے پیغمبر سیدنا یونس علیہ السلام) کی دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں کی جو بھی مسلمان اسے جس چیز کے لیے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے

«لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ» (سورہ انہیاء)

اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں تو پاک ہے بے شک میں ظالموں سے ہوں ۔

ترمذی شریف، مستدرک حاکم

رسول اکرم ﷺ کی 125 وصیتیں

۴۵ جب کوئی مشکل امر پیش آئے تو.....

سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا.....
 ((اللَّهُمَّ لَا سَهْلَ إِلَّا مَا جَعَلْتَ سَهْلًا وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزَنَ إِذَا
 شِئْتَ سَهْلًا))

اے اللہ کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان بنائے اور تو غم کو جب
 چاہے آسان بناتا ہے۔

موارد النظمان

۴۶ گھروں میں سورہ بقرہ پڑھنے کی وصیت

سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ سے بیان کرتے ہیں کہ آپ
 نے فرمایا.....

((اقْرَأُوا مُوْرَةَ الْبَقَرَةِ فِي بُيُوتِكُمْ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَدْخُلُ بَيْتًا
 يَقْرَأُ فِيهِ مُوْرَةَ الْبَقَرَةِ))

گھروں میں سورہ بقرہ پڑھا کرو جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے وہاں
 شیطان داخل نہیں ہوتا۔

متدرک حاکم

نیز سیدنا ابو هریرہ رضی اللہ عنہ رسول کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے
 فرمایا.....

((لَا تَجْعَلُوا هُبُوتَكُمْ مَقَابِرَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يُنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي
يُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ))

اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ بے شک جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی
جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔

..... مسلم شریف، کتاب صلاۃ المسافرین وقصرها

۸۰ وہ شخص کیوں نہیں ڈرتا

سید الکونین کے شاگرد حضرت ابوذر یہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے تنہیہ کے انداز میں ایک مرتبہ یہ ارشاد فرمایا کہ.....
((آلا يَنْخُشِي الَّذِي يَرْقَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يَحْوِلَ اللَّهُ رَأْسَهُ
رَأْسَ الْحِمَارِ))

کیا وہ شخص جو امام سے پہلے [ركوع یا سجدہ] سے اپنا سراخحالیتا ہے وہ
اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ اس کے چہرے کو بگاڑ کر گدھے کی
طرح کر دے۔

..... ابن ماجہ، کتاب اقامۃ الصلاۃ

۸۱ فوت شدہ لوگوں کو برانہ کہا کرو

ام المؤمنین سیدہ کائنات، سیدہ عائشہ ؓ فرماتی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا.....

رسول اکرم ﷺ کی 125 وصیتیں

((لَا تَسْبِّوا الْأَمْوَاتَ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَلُوا إِلَيْ مَا قَدَّمُوا))

فوت شدہ لوگوں کو گالی نہ دیا کرو [یعنی بُرَانَه کہا کرو] کیونکہ جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا تھا وہ اس کے پاس پہنچ گئے۔ [یعنی جو کچھ کیا تھا وہ اس کا بدله پانے کے لیے اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ تم انہیں بُرَا کہہ کر اپنا نامہ کامال سیاہ نہ کرو۔]

بخاری شریف، کتاب البخاری

۲۳) أحد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرنے والا

حضرت ابو هریرہ رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ ﷺ کا یہ ارشاد پاک منقول ہے جو کہ امت کے حق میں ایک اہم وصیت ہے۔ فرمایا.....

((لَا تَسْبِّوا أَصْحَابِيْ لَا تَسْبِّوا أَصْحَابِيْ فَوَ الَّذِي نَفْسِيْ بِيَدِهِ
لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أَحَدِ ذَهَبًا مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا
نَصِيفَةَ))

تم میرے صحابہ کو بُرَانَه کہنا، تم میرے صحابہ کو بُرَانَه کہنا۔ قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے..... پس اگر تم (بعد میں آنے والوں) میں سے کوئی شخص أحد پہاڑ جتنا سونا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر ڈالے تو وہ اُس اجر کو نہیں پہنچ سکتا جو ان [صحابہ] میں سے کسی کو ایک کلو جو یا اس کا آدھا حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر ملا۔

مسلم شریف، کتاب فضائل الصحابة

۳۲ عبادت اتنی ہو کہ جس پر دوام ہو سکے

سیدہ عائشہؓ فرماتی ہیں

رسول اللہ ﷺ گھر میں داخل ہوئے میرے پاس ایک خاتون حوالابت توبت بیٹھی ہوئی تھی جس کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ وہ رات کو سوتی نہیں بلکہ ساری رات عبادت میں گزار دیتی ہے۔ آپ ﷺ نے پوچھا:

((مَنْ هُدِيَ فَأَكْلَ فُلَانَةً تُذَكَّرُ مِنْ صَلَاتِهَا))

یہ خاتون کون ہیں سیدہ عائشہؓ نے بتایا یہ وہی ہیں جن کی رات کی نماز اور شب بیداری کا تذکرہ عام ہے۔ یہن کا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا:

((مَهُ عَلَيْكُمْ بِمَا تُعْصِيُونَ قَوَالِلُ اللَّهُ لَا يَمْلُلُ اللَّهُ حَتَّىٰ تَمَلُّوا وَكَانَ أَحَبُّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَا ذَادَمْ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ))

ایسا کرنا درست نہیں۔ تم اپنے اوپر وہی لازم کرو جس قدر تم میں طاقت ہو، اللہ تعالیٰ نہیں بیزار ہوتا یہاں تک کہ تم خود بیزار ہو جاؤ، اور یاد رکھو! دین میں سب سے پسندیدہ نفلی عبادت وہ ہے جس کا کرنے والا ہمیشگی اور باقاعدگی سے اسے کرے۔

..... بخاری شریف، کتاب الایمان۔

ایک حدیث میں ہے کہ جب وہ عورت اٹھ کر چلی گئی تو آقائے نامدار حضرت محمد رسول اللہ ﷺ نے پوچھا: منْ هُدِيَ یا عائشة؟ قَالَتْ أَعْبَدَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ! اے عائشہ! یہ کون تھی؟ بتایا کہ یہ وہ عورت تھی جو مدینہ میں سب سے

رسول اکرم ﷺ کی 125 صحتیں

زیادہ عبادت گزار ہے اور جس کی شب بیداری کا خوب شہرہ اور چہرچا ہے
اور بعد میں حدیث پاک کے وہی مذکورہ بالا الفاظ وارد ہیں۔

..... آخر جدہ محمد بن نصر فی کتاب قیام اللیل

فائدہ: اس حدیث میں حضور ﷺ کے ارشاد کے تحت علماء نے لکھا ہے کہ رات
بھر عبادت میں مصروف رہنا درست نہیں۔ انسان کے بدن کا اس کی آنکھوں کا بھی
اس پر حق ہے کہ انہیں آرام کا موقع دیا جائے۔ خود رسول پاک ﷺ کی بھی یہی
ترتیب تھی اور علماء و بزرگان دین اولیاء اللہ بھی اسی طریق پر گامزن رہے۔

۸۲ سات کام کرو سات چیزوں سے اجتناب کرو

حضرت سوئید بن مقرن کہتے ہیں کہ میں سیدنا براء بن عازب
ؓ کے پاس آیا تو وہ فرمایا ہے تھے کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں سات باتوں کا حکم
فرمایا اور سات چیزوں سے ہمیں باز رہنے کی وصیت فرمائی۔

(بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَاتِّبَاعِ الْجَنَائزِ وَتَشْمِيمِ الْعَاطِسِ وَإِبْرَارِ
الْقُسْمِ أَوْ الْمُقْسِمِ وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ وَاجْحَابَةِ الدَّاعِيِّ وَافْشَاءِ
السَّكَامِ)

جن باتوں کو ہمیں حکم فرمایا وہ یہ ہیں۔

مریض کی عبادت



جنازے میں شرکت کرنا



چھینکنے والا جب الحمد للہ کہہ لے تو اسے یہ حمک اللہ دعا دینا



قسموں کا پورا کرنا

مظلوم کی مدد کو آنا

دھوت قبول کرنا

اور سلام کو عام کرنا

((وَنَهَا نَعْنَ خَوَاتِيمَ أَوْ عَنْ تَخْتِيمِ الْذَّهَبِ وَعَنْ شُرْبِ الْفِضَّةِ
وَعَنِ الْمَيَافِيرِ وَعَنِ الْقَسِّيِّ وَعَنْ لُبْسِ الْعَرِيفِ وَالْإِسْتِرَاقِ
وَالْبَيْهَاجِ.....))

اور جن چیزوں سے ہمیں آپ ﷺ نے روکا..... وہ سات چیزیں یہ ہیں.....

سو نے کی انگوٹھی پہننا

سو نے، چاندی کے برتن میں کھانا پینا

دھوپ سے پختنے کے لیے ریشم پر دے لٹکانا

ریشم کے ساتھ کڑھائی سلانی کرنا

ریشمی لباس پہننا

ایسٹرائق یعنی موٹا ریشم پہننا

ویباخ یعنی باریک ریشم پہننا

..... مسلم شریف، کتاب اللباس والزينة۔ ترمذی شریف، کتاب الادب

۸۵ نجات کس چیز میں ہے؟

سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے

رسول اکرم ﷺ کی 125 صفحہ پر
پوچھا کہ آقا! نجات کس جیز میں ہے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا.....
(آمِیْكُ عَلَيْكَ لِسَانَكَ وَلَیْسَ عَلَكَ بَیْتُكَ وَابْنُكَ عَلَى
خَطِیْئَتِكَ)

تم اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اور اپنے گھر کو کافی سمجھو (یعنی گھر میں رہو
بلہ ضرورت اور بے کار میت گھوموتا کہ فتنوں کا شکار تھے ہو جاؤ) اور اپنی
خطاوں پر رویا کرو۔

ترمذی شریف، کتاب الزهد

۳۶ کمزوروں اور حاجت مندوں کا خیال رکھنا

حضرت معاذ بن جبل ؓ فرماتے ہیں کہ میرے آقا محمد رسول اللہ ﷺ
نے ارشاد فرمایا:.....

((مَنْ وَلَىَ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ شَيْئًا فَاخْتَجَبَ عَنْ أُولَى الْضَّعَفَةِ
وَالْحَاجَةِ اخْتَجَبَ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ))

میری امت میں سے جس شخص کو مسلمانوں کی کوئی ذمہ داری سونپی گئی
پھر وہ کمزوروں اور حاجت مندوں سے دور رہا تو روز قیامت اللہ تعالیٰ
سے اسے دوری حاصل ہوگی۔ نیز آپ ﷺ نے اپنی امت کے بے رحم
حاکموں اور ذمہ داروں کو بد دعا بھی دی اور خدا تریس حاکم وقت کو
دعاوں سے بھی نوازا..... فرمایا

((اللَّهُمَّ مَنْ وَلَىَ مِنْ أَمْرِ أَمْمَتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ كَاشْفُقُ عَلَيْهِ

وَمَنْ قَلَّ مِنْ أَمْرٍ أَعْتَدْنَا شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقُوهُمْ (سیتین ۱۲۵ رسول اکرم ﷺ کی)

اے اللہ! میری امت کے جس فرد کو کوئی منصب ملے پھر وہ لوگوں پر سختی کرے تو اس پر تو سختی فرمانا اور میری امت میں سے اگر کسی کو کوئی منصب ملے اور پھر وہ لوگوں کے ساتھ نہیں والا معاملہ کرے تو اس کے ساتھ روزِ قیامت نہیں بر تنا۔

..... مند احمد، مسلم شریف، کتاب الامارہ

۳۸ آسائشوں میں شہ پڑ جانا

حضرت معاذ بن جبل ؓ کو جب رسول ﷺ کی وحدتی حضرت محمد ﷺ نے میں کے لیے گورنر بنا کر بھیجا تو آپ ﷺ نے انہیں یہ وصیت فرمائی:.....

((إِيَّاكَ وَالْكَوْنَعَمَ فَإِنَّ عِبَادَ اللَّهِ لَيَسِّرُوا بِالْمُتَّعِمِينَ))

خبردار! عیش پرستی سے بچنا! بے شک اللہ تعالیٰ کے نیک بندے عیش پرستی اور آسائش پرستی اختیار نہیں کرتے۔ (عیش و عشرت کی زندگی اور تن آسانی کا جینا عموماً بندے کو رب سے غافل ہنا دیتا ہے۔ اس لیے اس سے حتی الوع اجتناب چاہیے)

..... مند احمد

۳۹ اللہ کی راہ میں بے حساب خرچ کیا کرو

حضرت فاطمہ بنت منذر کہتی ہیں کہ سیدنا ابو بکر ؓ کی صاحبزادی سیدہ

رسول اکرم ﷺ کی 125 صیتیں

اسماء ﷺ نے مجھے بتایا کہ رسول اکرم ﷺ نے ایک روز مجھ سے فرمایا.....
 ((اَنْفِقْتُ وَلَا تُخْصِنِ فِيْحِصِّ اللَّهُ عَلَيْكَ وَلَا تُؤْعِنِ فِيْوْعِنِ
 اللَّهُ عَلَيْكَ))

[الله کی راہ میں] خرچ کرتی رہو اور سنا نہ کرو ورنہ اللہ بھی تمہیں سنا پڑتا
 رزق دے گا، اور رزق کی کمی کے ذر سے یا بخل کی وجہ سے برتن میں بچا
 بچا کرنا رکھا کرو، ورنہ اللہ بھی تمہیں تحوزہ اتحوڑا دے گا۔

بخاری، کتاب الہبة

۸۹) اگر رات میں سفر سے لوٹو تو.....

سیدنا جابر بن عبد اللہ النصار ﷺ سے ایک لمبی حدیث کتب صحابہ میں مروی
 ہے وہ فرماتے ہیں کہ آقائے عرب و عجم محمد رسول اللہ ﷺ نے مجھے فرمایا.....
 ((لَا تَأْتِ أَهْلَكَ طُرُوقًاً))

سفر سے واپسی پر [رات کو اپنے گھر میں اچانک نہ آیا کرو۔
 ایک اور حدیث انہی سے مسلم شریف میں مروی ہے جس کے الفاظ یہ
 ہیں.....

((نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا آتَكَانَ الرَّجُلُ الْغَيْبَةَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ
 طُرُوقًاً))

رسول اللہ ﷺ نے اس سے منع فرمایا ہے کہ آدمی لمبی غیر حاضری کے بعد
 واپس گھر [بغیر اطلاع دیے] اچانک آجائے۔ [بخاری، کتاب الحج میں یہ الفاظ ہیں:]

رسول اکرم ﷺ کی 125 صیتیں
آن یَطْرُقَ أَهْلَهُ لَيْلًا كہ رات کے وقت واپس اچانک گھر آنے سے منع فرمایا۔]

مسلم شریف، کتاب الامارة

ختیٰ مرتبت ﷺ نے اپنے عمل سے یوں اس کی تعلیم دی.....
صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول کریم ﷺ کے ساتھ ایک سفر سے واپس
لوئے توجہ ہم بستی کے گھروں میں داخل ہونے لگے تو آپ ﷺ نے ارشاد
فرمایا: تھوڑی دیر پھر جاؤ تاکہ گھروں میں تمہاری ازواج تمہارے آنے کی خبر سن
کر لگھی کر لیں اور تمہارے لیے زینت اختیار کر لیں۔ اس حدیث کو ابو داؤد
شریف کتاب الجہاد میں روایت کیا گیا ہے۔

۹۰ رشتہ کا انتخاب دینداری کی وجہ سے کیا کرو

حضرت سیدنا ابو حریرہ ؓ سے ایک حدیث وارد ہے جس میں حضور ﷺ نے یہ وصیت فرمائی.....

((تُنَكِحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعِ لِعَالِهَا وَلِحُسْبَاهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا
فَاظُفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَكَ))

بلاشبہ رشتہ کے لیے عورت کا انتخاب چار چیزوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔

اس کے مالدار ہونے کی وجہ سے *

اس کے حسب نسب کی وجہ سے *

اس کے حسن و جمال کی وجہ سے *

اس کے دین کی وجہ سے *

رسول اکرم ﷺ کی 125 دعائیں
 (اے مخاطب !) پس تجھ پر لازم ہے کہ تو دین داری کی وجہ سے رشتہ کا
 انتخاب کرنا۔

مسلم شریف، کتاب الرضاع

۹۱ اچھے لوگوں کی ہمنشینی اختیار کرو

حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ اپنے والد سیدنا عامر بن عبد اللہ اشعری رضی اللہ عنہ سے یہ
 فرمان نبوی روایت فرماتے ہیں

((مَثُلُ الْجَلِيلُ الصَّالِحُ وَالْجَلِيلُ السُّوءُ كَمَثَلٍ صَاحِبِ
 الْمِسْكِ وَكَيْرُ الْحَدَادِ لَا يَعْدُمُكَ مِنْ صَاحِبِ الْمِسْكِ إِمَّا
 تَشْتَرِيهِ أَوْ تَجِدُهُ رِيعَةً وَكَيْرُ الْحَدَادِ يُحرِقُ بَذَنَكَ أَوْ تُؤْبَكَ أَوْ
 تَجِدُ مِنْهُ رِيعًا خَبِيثًا))

اچھے اور بُرے ہمنشین کی مثال عطار..... اور لوہار کی بھٹی جیسی ہے۔
 عطار سے آپ کچھ خریدیں یا نہ، اس سے آپ کو اچھی خوبیوں سوگھنے کو تو
 مل ہی جائے گی [یا اس کے پاس بیٹھنے سے کپڑوں میں بس جائے
 گی۔] اور بھٹی کے پاس آپ بیٹھیں گے تو آپ کا بدن جلائے گی یا
 کپڑے، یا سوگھنے کو وھوں اور بو تو خواہ مخواہ ہی ملے گی۔

بخاری شریف، کتاب البیوع

۹۲ اختلافات سے بچو!

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے میں نے مروی ہے کہ رسول دو عالم، نبی

مکرم، حضرت محمد ﷺ سے نا آپ فرمائے تھے
 ((لَا تَعْتَلِفُوا فِي أَنَّ مَنْ كَانَ فِيلَكُمْ، إِخْتَلِفُوا فَهَلْ كُوْنُوا))
 تم آپس میں اختلاف سے بچو، پس بے شک تم سے پہلے جو لوگ گزرے
 ہیں وہ بھی آپس میں اختلاف کرنے لگے تھے سو ہلاک ہو گئے۔

..... بخاری، کتاب الحصوات

۹۳ اپنے بھائی کو ظلم سے روکو!

خلوص خاتم الانبیاء، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا
 حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ نے ارشاد فرمایا
 ((اَنْصُرُ اَخَاهُكُمْ اَوْ مَظْلُومًا قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَصَرْتُه مَظْلُومًا فَكَيْفَ الْأُصْرَةُ ظَالِمًا قَالَ تَكْفُهُ عَنِ الظُّلْمِ فَذَلِكَ نَصْرُكَ اِيَّاهُ))

تو اپنے بھائی کی ہر حال میں مدد کر خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم - صحابی نے
 عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ جب وہ مظلوم ہو تو اس کی مدد کروں گا
 لیکن ظالم کی مدد کیونکر کروں؟ فرمایا تم اسے ظلم سے روک دو یہ
 اس کے ساتھ تمہاری مدد ہو گی۔

..... ترمذی، کتاب الفتن

امام الحدیث شیعین محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنی صحیح میں یہ حدیث
 لائے ہیں جس کے آخری الفاظ یہ ہیں قَالَ تَأْخُذُ كُوْقَ يَدَيْهِ - بخاری ،

كتاب المظالم والغصب

فرمایا..... تو اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے ظلم سے روک دے [یہ تیری مدد ہوگی اپنے بھائی کے ساتھ۔ تاکہ وہ ظلم کرنے سے باز رہے اور اپنی دنیا و آخرت تباہ نہ کر پیشے۔]

۹۲) ناحق کسی کی زمین پر قبضہ جانا

سیدنا سعید بن زید رضی اللہ عنہ، آقا علیہ السلام کے ایک پیارے سے صحابی ہیں فرماتے ہیں کہ میرے حبیب حضرت محمد ﷺ نے ارشاد فرمایا.....

((مَنْ ظَلَمَ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا طُوقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ))

جس شخص نے ظلم کسی کی کچھ زمین ہتھیا لی اس حصہ زمین کے ساتوں طبق، طوق بنانے کے لئے میں ڈالی جائیں گے۔

دوسری حدیث میں یہ الفاظ مذکور ہیں مَنْ ظَلَمَ قَيْدَ شِبْرٍ یعنی جس شخص نے ایک بالشت بھر زمین بھی کسی پر ظلم کرتے ہوئے چین لی وہ ایک بالشت زمین ساتوں زمینوں سے لے کے اس کے گلے میں روز قیامت عذاب کے طور پر ڈالی جائے گی۔

بخاری شریف، کتاب المظالم والغصب

اس حدیث پاک کے راوی سیدنا سعید بن زید رضی اللہ عنہ ہیں جو کہ ان دو صحابہ میں سے ہیں جنہیں اللہ کے نبی ﷺ نے اپنے ایک ہی خطاب میں جنتی ہونے کی نوید سنائی تھی۔

اس مذکورہ بالا حدیث کے تحت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے مذکورہ صحابی کا

رسول اکرم ﷺ کی 125 صفحہ

ایک واقعہ ذکر کیا ہے وہ یہ کہ آرڈی بنت اویس نامی ایک خاتون نے مروان بن حکم کے دربار میں یہ دعویٰ پیش کیا کہ سیدنا سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے اس کی کچھ زمین ہتھیاری ہے۔ مروان نے اُن سے پوچھا کہ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جب میں نے خود رسول اللہ ﷺ سے یہ مذکورہ بالا فرمان سن رکھا ہو تو میں کیوں کسی کی زمین چھینوں؟ یعنی میں حضور ﷺ کے فرمان پر یقین رکھتا ہوں اور میں کسی کی کچھ تھوڑی سی زمین کے بد لے روز قیامت کی رسوائی اور بر بادی نہیں حاصل کرنا چاہتا۔ مروان نے کہا: مجھے آپ سے کوئی دلیل نہیں چاہیے۔ آپ جائیے مجھے آپ کی بات پر یقین ہے کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے۔

اس عورت کا پھر بھی سبی اصرار تھا کہ انہوں نے میری زمین ہتھیاری ہے میرے ساتھ ظلم کیا ہے۔ وہ ہرگلی کوچے میں پھرتی ہوئی یہ بات کہتی کہ فلاں نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے۔ جس پر حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کی زبان سے اس کے لیے بدوعا کے یہ الفاظ نکل گئے اللَّهُمَّ إِنْ كَانَتْ كَذِبَةً فَعَلِمْ بَصَرَهَا وَأَفْتَلُهَا فِي أَرْضِهَا اے اللہ! تیرے علم کے مطابق اگر یہ جھوٹی ہے تو اس کی بینائی سلب کر لے اور اسے اپنی زمین میں ہی مار ڈال!

پس اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بینائی سلب کر لی اور پھر وہ گلی کوچے میں بے قرار ہو کر پھرتی رہتی اور کہتی مجھے حضرت سعید رضی اللہ عنہ کی بدوعا مار گئی۔ یہاں تک کہ اپنی زمین میں ایک کنوں میں گر کر ہلاک ہو گئی۔ واقعہ، مسلم شریف، کتاب المساقۃ فائدہ: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ناجی کسی کی زمین وغیرہ کوئی چیز نہیں یعنی پچھے اس سے آخرت بر باد ہو جاتی ہے۔ نیز اس واقعہ سے پتہ چلا کہ کسی پر ناجی

رسول اکرم ﷺ کی 125 میتین

بہتان لگانا بھی زندگی کی بر بادی کا سبب بن جاتا ہے۔

۹۵ خدمت گاروں کا حق ادا کرنا

علم نبوت سے خوب سیراب ہونے والے صحابی، سیدنا ابو ہریرہ ؓ فرماتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا.....

((إِذَا صَنَعَ لِأَحَدٍ كُمْ حَادِمَةً طَعَامَةً ثُمَّ جَاءَهُ بِهِ وَقَدْ وَلَيَ حَرَةً
وَدُخَانَهُ فَلِيُقْعِدْهُ مَعَهُ.....))

جب تمہارا خادم کھانا تیار کر کے تمہارے پاس لے آئے تو اسے اپنے ساتھ بٹھا لوتا کہ وہ بھی کھالے اس لیے کہ اس نے اس کے پکانے میں آگ کی گرمی اور دھواں بھی جھیلا ہے۔ اور اگر کھانا تھوڑا ہو تو اسے ایک دو لقے ہی پچھا دو۔

[منڈ احمد میں حدیث کے یہ الفاظ ہیں..... قَاتُ أَبَى فَاطِعْمَةَ فِي يَدِهِ
کہ اگر وہ آپ کے پاس نہ بیٹھے تو اس کے ہاتھ پر ہی کچھ رکھ دو۔ سبحان اللہ!!
شیفیق آقا کے الفاظ میں بھی کتنا شفقت آمیز لہجہ پایا جا رہا ہے۔]

مسلم شریف، کتاب الحق

۹۶ اے مسلم خواتین! غور سے سستو!

رسول اکرم، رحمت دو جہاں، سید کائنات حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ سے سیدنا ابو ہریرہ ؓ یہ حدیث روایت فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ نے [ایک مجلس میں جس

رسول اکرم ﷺ کی 125 صبحیں

میں عورتیں بھی بکثرت پرے کی اوٹ میں بیٹھی تھیں [خطاب فرمایا: يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ اَعْلَمُ خَوَاتِنَ !!] [وفي رواية منذ احمد قالها تكلاتا منذ احمد میں ہے آپ نے یہ الفاظ تین بار ارشاد فرمائے۔]

(تَهَادُوا فَإِنَّ الْهَدِيَةَ تُذَهِّبُ وَحَرَ الصَّدْرُ وَلَا تَعْقِرَنَّ جَارَةً
لِجَارَتِهَا وَلَوْ شِئْ قِرْسِينَ شَاءَ) [وفي بعض الاحاديث .. ولو

فرس شاہ]

باہم ہدیہ دیا کرو اس لیے کہ ہدیہ سینے کے کھوٹ اور غیظ و غضب کو
بہالے جاتا ہے۔ اور کوئی عورت اپنی پڑوں کے لیے اس ہدیہ کو حقیرہ
جانے چاہے وہ اسے بکری کے پاؤں کے گھر کا کچھ حصہ ہی دے رہی
ہو۔ یعنی وہ ہدی جس پر بہت قلیل سا گوشت لگا ہو۔

..... ترمذی، کتاب الولاء والہبة عن رسول اللہ ﷺ

فائدہ: مرا اس سے یہ ہے کہ ہدیہ چاہے تھوڑا ہو دینا ضرور چاہیے اس سے نفرتیں
اور کدوں تینیں دور ہوتی ہیں اور محبتیں بڑھتی ہیں۔

۹۷ پانچ باتوں پر کون عمل کرے گا؟

سیدنا ابوذر ریہ ؓ اس حدیث کے راوی ہیں کہ
رسالت مام ﷺ اپنے صحابہ میں تشریف فرماتھے کہ آپ نے اعلان
فرمایا..... کون یہ پانچ باتیں مجھ سے لینے کو تیار ہے، خود ان پر عمل کرے یا ان
لوگوں تک پہنچائے جو اس پر عمل کرنے پر آمادہ ہوں۔

سیدنا ابوذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب تھے سے بول پڑا..... آقا! میں اس کے لیے تیار ہوں۔ تو معلم انسانیت حضرت محمد رسول اللہ ﷺ نے میرا ہاتھ پکڑ کر یہ پانچ چیزوں کن کر مجھے سکھلا دیں۔۔۔ فرمایا۔۔۔

۱. اِتَّقِ الْمُحَارِمَ تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ

اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچو سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے۔

۲. وَأَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ

اللہ تعالیٰ نے تمہاری قسمت میں جو لکھ دیا ہے اس پر راضی ہو جاؤ سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے۔

۳. وَأَخْسِنُ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا

اپنے پڑوی سے اچھا سلوک کرتے رہو کے مومن بن جاؤ گے۔

۴. وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا

تم لوگوں کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے کرتے ہو کامل مسلمان بن جاؤ گے۔

۵. وَلَا تُكثِرِ الظِّحْلَكَ فَإِنَّ كُثْرَةَ الظِّحْلَكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ

زیادہ بُشی سے بچو۔ اس لیے کہ کثرت سے ہنسا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔

.....ترمذی شریف، کتاب الزحمد

۶. یہ میری امت کے لیے سخت فتنہ ہیں

سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول دو عالم ﷺ نے ایک موقع

پر ارشاد فرمایا.....

((مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ))
میں اپنے بعد اپنی امت کے مردوں کے لیے عورتوں سے بڑھ کر کوئی
فتنه کی چیز چھوڑ کر نہیں جا رہا۔

بخاری، کتاب النکاح، مسلم شریف، کتاب الذکر والدعاء
فاائدہ: اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورتوں میں کوئی نحوس تھے یا عورتوں کا وجود نہ
ہے تو ان سے پناہ مانگنی چاہیے..... ایسا قطعاً نہیں ہے۔ بلکہ گھر یلو عورتوں کے
بارے میں..... نیک، باپرداہ اور صاحب تلقاوی خواتین کے لیے تو قرآن و حدیث
میں بڑی بشارتیں آئی ہیں۔ اس حدیث میں تو ان بُری عورتوں کا تذکرہ ہے جو
بے حیائی، اللہ رسول کی نافرمانی اور بے پردگی کے ساتھ، اپنی زینت کے اظہار
کے ساتھ مزدوں کی جانب مائل ہونے والی اور انہیں اپنی جانب مائل کرنے والی
ہیں اور اس طرح بُرائی کے پھیلانے کے سبب وہ فتنہ تھہریں۔

اور اسی وجہ سے معلم اخلاق ﷺ نے اپنی ایک حدیث میں ارشاد فرمایا،
جسے امام مسلم نے روایت کیا ہے: وَاتَّقُوا النِّسَاءَ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةَ بَنِي إِسْرَائِيلَ
كَانَتْ فِي النِّسَاءِ: اور تم عورتوں سے بچو! اس لیے کہ بنی اسرائیل میں پہلا فتنہ
عورتوں ہی سے اٹھا تھا۔ اس میں بھی ان عورتوں کو فتنہ کہا گیا جو اپنی جلوہ سامانیوں
کے ساتھ، اپنی آرائشِ جمال کے سبب لوگوں کے دلوں میں بُرائی کا نجج بوتی ہیں وہ
فتنه کی جڑ اور بنیاد نہیں، بنی اسرائیل کے لیے بھی اور اس امت کو بھی اس بُرے
وقت کے آنے سے پہلے آگاہ کیا جا رہا ہے۔ اس حدیث میں ایک دوسرا پہلو یہ بھی

ہے کہ وہ عورتیں تو بُریٰ طہریں، وہ مرد جو انہیں تاکتے پھرتے ہیں اور گلی کو جوں میں گھات لگائے پھرتے ہیں کیا ان کا کوئی قصور اور جرم نہیں ہے؟ یاد رہے وہ بھی برابر کے مجرم ہیں..... لیکن جو آگ لگائے اس کا جرم کہیں زیادہ ہے اس سے جو آگ میں جلنے والوں کا نظارہ کرے یادہ جو تماشائی بنے۔ بہر حال عورتیں جب عریانیت کا لبادہ اوڑھ کر نکلیں گی، مردان پر بری نگاہیں ڈالیں گے تو تباہی ان عورتوں کے لیے بھی ہوگی اور وہ مرد بھی اس بربادی کا خیازہ بھکتیں گے۔

۹۹ اپنے لیے اعمال صالحہ کا ذخیرہ کرو

رحمت للعاليین آقا جناب محمد رسول اللہ ﷺ کے علم و دوست صحابی سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آیت ﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ اور ڈرائیے اپنے قریبی رشتہ داروں کو نازل ہوئی تو رسول مکرم ﷺ کھڑے ہوئے اور قریش کے پاس جا کر انہیں کہا.....

اے معاشر قریش! تم اپنے لیے کچھ کرلو کما لو، میں اللہ کے دربار میں تمہارے کام نہیں آسکوں گا۔ اے بنو عبد مناف! تم بھی اپنے لیے کچھ اعمال کا ذخیرہ کرلو میں اللہ کے ہاں تمہارے کام نہیں آسکوں گا۔ اے عباس! اے صفیہ، کچھ کرلو۔

اے فاطمہ بنت محمد ﷺ! سَلِيْمِيْ مَا شِئْتِ مِنْ مَالِيْ لَا أُغْنِيْ عَنْكِ مِنَ
اللّٰهِ شَيْئًا

اب جو چاہے میرے مال میں سے مجھ سے مانگ لے! اللہ کے ہاں

میں تیرے کیا کام آسکوں گا۔

بخاری، کتاب الوصایا

فائدہ: حالانکہ آپ ﷺ کی شفاعت اہل ایمان کے لیے حق ہے اور یہ ایمان والوں کے کام آنا ہی ہے۔ لیکن یہ شفاعت بھی جس کے حق میں اللہ اجازت دیں گے اس کے لیے ہوگی۔

اس آیت میں نبی ﷺ کو چونکہ ذرانتے کا کہا گیا تھا اس لیے آپ ﷺ نے واضح ذرستا کر اس حکمِ الہی کا حق ادا کر دیا۔

۱۰۰ اللہ سے ہی مانگو

سیدنا حکیم بن جوامؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک ﷺ سے کچھ مال مانگا آپ نے مجھے عطا فرمایا میں نے پھر مانگا تو آپ نے پھر مجھے عطا فرمایا اور ساتھ ہی یہ ارشاد بھی فرمایا: اے حکیم!

((إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَصِرٌ حُلُوٌ فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةٍ نَفْسٌ بُورَكَ لَهُ
فِيهِ وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافٍ نَفْسٌ لَمْ يُبَارِكَ لَهُ فِيهِ وَكَانَ كَالْذِي
يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ وَالْيَدُ الْعَلِيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ السُّفْلِيِّ))

بے شک یہ مال بڑا بارونق اور میٹھا میٹھا ہے جس نے اسے اپنی ذاتے سخاوت سے اسے خرچ کیا اس کے لیے اس میں برکت ڈال دی جائے گی اور جس نے اپنے دل کے لامچ سے کام لیا اس کے لیے اس میں کوئی برکت نہیں ہوگی اور اس کی مثال اس لامچی کی سی ہے جو کھائے

رسول اکرم ﷺ کی 125 صیفیں
جاتا ہے مگر اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ اور یاد رکھو! اوپر والا ہاتھ شیچے والے سے (یعنی دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے) بہت بہتر ہے۔

..... بخاری شریف، کتاب الوصایا

۱۰۱ یہ تین خوبیاں رکھنے والا شخص جنتی ہے

حضرت ابو سعید خدرا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا.....
منْ أَكَلَ طَيْبًا وَأَعْمَلَ فِي سُنَّةٍ وَآمَنَ النَّاسُ بِوَانِقَةٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ
جس نے حلال و پاکیزہ کھانا کھایا
اوہ سنت پر عمل کرتا رہا
اور لوگ اس کے ہاتھوں تکالیف سے بچ رہے تو وہ شخص ضرور جنت میں داخل ہوگا۔

((فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا الْيَوْمَ فِي النَّاسِ لَكَثِيرٌ قَاتَلَ وَسَيَكُونُ فِي قُرُونٍ بَعْدِي))
ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہا اے اللہ کے رسول ﷺ! آج کے زمانہ میں تو ایسے لوگ بکثرت موجود ہیں فرمایا..... آنے والے آدوار میں بھی ہوں گے مگر بہت تھوڑے۔

..... ترمذی، کتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول اللہ ﷺ

۱۰۲ دشمن سے ملکرانے کی دعا مت کرو

سیدنا عبد اللہ بن اوفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول امین، خاتم النبیین

حضرت محمد ﷺ نے ایک روز اپنے اصحاب ﷺ کو ایک خطبہ ارشاد فرمایا.....
 ((أَيُّهَا النَّاسُ لَا تَسْمَعُوا لِقَاءَ الْعُدُوِّ سَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ فَإِذَا
 لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوْا وَاعْلَمُوْا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ طِلَالِ
 السُّيُوفِ))

اے لوگو! دشمن سے مکرانے کی خواہش نہ کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ سے عافیت
 مانگتے رہا کرو۔ پس جب ان سے مکرانے کا موقع آئے تو ذکر کے لڑو
 اور یقینی طور پر جان لو کہ جنت تواروں کے سامنے تلتے ہے۔

..... بخاری شریف، کتاب الجہاد والسریر، سنن ابو داؤد، کتاب الجہاد

۳۴ میرا نام اور کنیت جمع نہ کرنا

شاگر در رسول، جاثدار نبی، سیدنا ابو حیرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ.....
 ((نَهِيَ أَنْ يَجْمَعَ أَحَدٌ بَيْنَ إِسْمِهِ وَكُنْيَتِهِ وَيُسَمِّي مُحَمَّداً أَبَا
 الْقَاسِمِ))

رسول مکرم ﷺ نے لوگوں کو روکا کہ کوئی شخص میرا نام اور میری کنیت کو
 اکھا استعمال نہ کرے

..... ترمذی، کتاب الادب عن رسول اللہ ﷺ

اس حدیث پاک کی وضاحت چند اور احادیث سے کی جاتی ہے تاکہ اس
 کے سامنے پہلو آپ کے سامنے آ سکیں..... ملاحظہ فرمائیے!

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں.....

رسول اکرم ﷺ کی 125 صفحیں

(وَلَدَ لِرَجُلٍ مِّنَ الْمُغَامِرِ مُحَمَّداً فَقَالَ لَهُ قَوْمٌ لَا تَدْعُك
تُسَمِّي بِاسْمِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ)

ہم (صحابہ) میں سے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے ہاں بیٹا متولد ہوا تو اس نے اس کا نام محمد رکھا۔ افراد قوم کو جب معلوم ہوا تو وہ ان کے پاس آ کر جمع ہو گئے اور کہنے لگے ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے تم نے

حضرت محمد ﷺ کے نام پر اپنے بچے کا نام کیوں رکھا ہے؟

اس نے اپنے بچے کو اپنی پیٹھ پر سوار کیا اور رحمی دو عالم ﷺ کے پاس آ کر عرض کی آقا! میں نے اپنے اس بچے کا نام آپ کے نام پر رکھا ہے تو میری قوم نے اسے بے ادبی سمجھ کر مجھے برا بھلا کہا ہے۔ میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں آپ اس بارے میں مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ تو آپ ﷺ نے اس صحابی کے جواب میں فرمایا: تَسْمُّو بِاسْمِيْ وَلَا تُكْتُنُوا بِمُكْنِسْتِيْ میرا نام رکھا کرو میری کنیت نہ رکھا کرو۔

امام مسلم نے اپنی کتاب صحیح مسلم شریف میں کتاب الادب کے آغاز میں پہلا باب جو قائم فرمایا ہے وہ بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّكْنِيْ بِأَبِي الْفَاسِمِ وَبَيَانِ مَا يُسْتَحْبِطُ مِنَ الْأُسْمَاءِ ہے۔ یعنی ابوالقاسم کنیت رکھنے سے ممانعت اور دیگر پسندیدہ نام رکھنے کا بیان۔

اور اس باب میں مندرجہ ذیل حدیث کے مضمون والی کئی احادیث ذکر کی ہیں۔ جن سے یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کے ناموں کے لیے پسندیدہ ناموں میں سے ایک نام رسول اللہ کا نام محمد بھی ہے وہ رکھا کرو۔

حضرت سالم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ ایک انصاری کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو اس نے حضور ﷺ کا نام بچے کے لیے رکھنا چاہا اور رحمتو دو عالم ﷺ کی خدمت میں آکر اس بارے میں پوچھا تو آپ ﷺ نے فرمایا: **أَحْسَنْتِ الْأُنْصَارُ سَمُّوا بِاسْمِيْ وَلَا تَكْتُنُوا بِكُنْيَتِيْ** ، انصار نے یہ اچھا کیا ہے۔ تم اپنے بچوں کا نام میرے نام پر رکھا کرو اور ہاں میری کنیت نہ رکھا کرو۔

مسلم، کتاب الادب

فائدہ: ان مذکورہ پانچ احادیث میں جو آپ کی کنیت رکھنے سے روکا گیا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ عرب میں کسی انسان کو اس کی کنیت سے پکارنا وجہ شرافت اور باعث وقار سمجھا جاتا تھا۔ لہذا نام کی بجائے آپ ﷺ کو بھی اکثر آپ کی کنیت ابوالقاسم ہی سے بلا یا جاتا ہے اس وجہ سے آپ کی حیات طیبہ میں آپ کی کنیت کا کسی دوسرے فرد کے لیے استعمال درست نہ تھا۔ اور اس کی ممانعت کا دوسرا پہلو یہ تھا کہ آپ ﷺ کی کنیت کا استعمال دوسرے لوگوں کے لیے یہ آپ کی حیات طیبہ میں اس لیے درست نہ تھا کہ آپ ﷺ کی اذیت کا سبب بنتا تھا۔ اس کی دلیل مسلم شریف کی وہ حدیث پاک ہے جس میں ذکر ہے کہ آپ ﷺ جنت البقع کے قریب سے گزر رہے تھے کہ کسی نے آپ کو پیچھے سے یا ابا القاسم کہہ کر آواز دی آپ اس کی جانب متوجہ ہوئے تو اس نے کہا معاف کیجئے میں آپ کو نہیں بلکہ آپ جیسی کنیت والے فلاں شخص کو بلانا چاہ رہا تھا تو اس موقع پر آپ ﷺ نے اپنی اس کنیت کا دوسروں کے لیے استعمال منع فرمادیا۔ (مسلم)

رسول اکرم ﷺ کی 125 صحتیں

شریف، کتاب الادب) لیکن علماء و محدثین اور فقہاء نے فرمایا ہے کہ یہ ممانعت اس دور کے لوگوں کے لیے تھی بعد کے لوگوں کے لیے کنیت اختیار کرنے کی اجازت ہے۔

پانچ زندگی بات آپ کا نام مبارک رکھنے کی۔ تو امام مسلم نے اس کو استحباب اور پسندیدگی میں شمار کیا ہے۔ اس لیے کہ خود حضور ﷺ نے اس کی صریحاً اجازت دی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ امت کے بہت سے علماء و فقہاء اور ائمہ محدثین کے نام آپ ﷺ کے نام محمد پر رکھے گئے۔ علاوه ازیں یہ امر ڈھیروں برکتوں کا سبب بھی ہے۔

اور محدثین نے لکھا ہے کہ یہ نام بڑی برکتوں والا ہے جس پچے کا یہ نام رکھا جائے وہ بڑی صفات اور خوبیوں والا ہوتا ہے۔ نیز بہت سے ائمہ محدثین کا نام بھی محمد اور احمد حدیث اور اسماء الرجال کی کتابوں میں ملتا ہے۔

اس سلسلہ میں چند احادیث اور ملاحظہ فرمائیے!

سیدہ عائشہ اُم المؤمنین ؓ فرماتی ہیں کہ ایک عورت، رسول اکرم ﷺ کے پاس آئی اور کہا:

میرا بیٹا پیدا ہوا ہے اور میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے اور اس کی کنیت ابو القاسم رکھی ہے۔ بعد میں مجھے یہ علم ہوا کہ آپ اسے اچھا نہیں سمجھتے؟ تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جس نے میرا نام رکھا اس کے لیے میری کنیت رکھنا درست نہیں اور جس نے میری کنیت اختیار کی اس کے لیے میرا نام رکھنا درست نہیں۔

(ابوداؤد، کتاب الادب)

﴿ محمد نام رکھنے کی برکات ﴾

سیرت کی مشہور کتاب مدارج النبوة میں حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رض فرماتے ہیں :.....

حضور اکرم ﷺ کے اسم مبارک پر نام رکھنا مبارک ونافع اور دنیا و آخرت میں حفاظت میں لینے والا ہے۔ چنانچہ سیدنا انس بن مالک رض سے مروی ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا بارگاہ حق میں دو بندے کھڑے کیے جائیں گے اس پر حق تعالیٰ انہیں جنت میں داخل کرنے کا حکم فرمائے گا۔ یہ دونوں بندے عرض کریں گے اے ہمارے رب! اس کیز نے ہمیں جنت کا مستحق اور اہل بنایا حالانکہ ہم نے کوئی نیک عمل نہیں کیا ہاں مگر ہم تیری رحمت سے جنت میں جانے کے امیدوار ضرور تھے۔ اس پر اللہ رب العزت جل جلالہ فرمائے گا تم جنت میں داخل ہو جاؤ مجھے اپنی ذات کی قسم! جس کا نام محمد یا احمد ہوگا میں اسے ہرگز جہنم میں نہ ڈالوں گا۔ نیز ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم ﷺ سے فرمایا مجھے قسم ہے اپنے عزت و جلال کی، میں کسی ایسے شخص کو عذاب نہ دوں گا جس کا نام تمہارے نام پر ہوگا۔

سیدنا علی رض سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: جہاں کہیں کوئی دستر خوان بچھایا گیا اور لوگ اس پر کھانے کے لیے آئے اور ان میں احمد اور محمد نام والے بھی ہوئے تو میں اس دستر خوان والے گھر کو روزانہ دو بار پاک کروں گا۔ (

رواه ابو منصور الدبلینی)

ایک اور حدیث میں آتا ہے جس گھر میں محمد نام والا کوئی آدمی ہو میں ضرور اس گھر میں برکت ڈالوں گا۔

ایک اور جگہ فرمان نبوی ہے جو قوم کسی مشورہ کے لیے کسی جگہ جمع ہوئی اوز ان میں کوئی شخص ایسا بھی موجود ہو جس کا نام محمد ہو تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے کام میں برکت عطا فرمائے گا۔ نیز ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ جس کا نام محمد ہوگا حضور ﷺ اس کی شفاعت فرمائیں گے اور جنت میں اسے داخل کروائیں گے۔

(مؤلف خدا کی کتاب، حضور ﷺ کی بچوں سے محبت صفحہ: 62۔ طبع جدید)

(مدارج الدُّوَّۃ مترجم، جلد 1، ص: 246، مطبوعہ مدینہ پبلشنگ کمپنی کراچی)

۱۳۳ آج ہر ظلم کی تلافی کا موقع ہے

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا.....
 ((مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لَا يَحْبِهُ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْلَهُ تَعَالَى مِنْهُ
 الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَأَيْكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ
 أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ
 سِيَّئَاتِ صَاحِبِهِ فَمُعْلَمَ عَلَيْهِ))

جس شخص کا اپنے کسی بھائی پر کوئی ظلم ہو مال یا کسی اور چیز کے بارے میں، تو اسے چاہیے کہ آج کے دن وہ اس کا بدلہ اتاردے۔ اس سے

رسول اکرم ﷺ کی 125 وصیتیں

پہلے کہ وہ دن آئے جب کوئی دینار و درهم اس کے پاس نہ ہوگا۔ اگر کوئی نیک عمل اس نے کیا ہوگا تو اس سے لے کر اسے دے دیا جائے گا جس پر [اس نے دنیا میں] ظلم کیا ہوگا۔ اور اگر نیک اعمال نہ ہوں گے (یا نہ بچیں گے) تو اس مظلوم کی بدیاں اٹھا کر اس کے پڑے میں ڈال دی جائیں گی۔

..... بخاری، کتاب المظالم والغضب، مند احمد

ایک دوسری حدیث میں اس مضمون کو یوں بیان کیا گیا ہے ملاحظہ فرمائیے اور اپنے دل میں فکر آخرت پیدا کر کے یہ سوچئے کہ یہ وصیت مجھے کی جا رہی ہے میرے لیے یہ بتایا جا رہا ہے

((إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكْوَةً وَيَاتِيُ قُدْشَتَمْ هَذَا وَسَفَلَكَ دَمَ هَذَا وَأَكْلَ مَالَ هَذَا))

حضور ﷺ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ بات سمجھانے کی غرض سے پوچھا: تم جانتے ہو کہ مفلس کے کہتے ہیں؟ تو جواب میں صحابہ نے کہا: وہ شخص جس کے پاس درہم و دینار [روپیہ پیسہ] نہ ہو۔ آپ ﷺ نے فرمایا: بلکہ مفلس تو وہ شخص ہے جو روزِ قیامت بہت سی نمازیں، زکوٰۃ اور بہت سے روزے لے کر حاضر ہوگا لیکن کسی کو ستایا ہوگا گالی دی ہوگی، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کا مال ناقن کھایا ہوگا۔ پھر اس کے نیک اعمال اس سے لے کر صاحب حق لوگوں کو دے دیے جائیں گے۔ اور جب نیک اعمال اس کے پاس باقی نہ بچیں گے تو جن کے حق کھائے تھے ان کی بدیاں اٹھا کر اس کی گردان پر لا د دی جائیں گی۔

..... اخرجه مسلم فی صحیحہ فی کتاب البر والصلة والآداب

۱۵۴ اولاد میں عدل کیا کرو

سیدنا عامر بن شراحیل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا صحابی رسول مقبول، حضرت نعمان بن بشیر رض منبر پر بیٹھ کر فرمائے تھے کہ میرے ابا نے مجھے اپنے مال میں سے کچھ مال دیا۔ میری ماں نے کہا: لَا أَرْضِي حَتَّى تَشْهَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تم جب تک اس مال پر رسول اللہ ﷺ کو گواہ نہ ٹھہراو میں خوش نہیں ہوں گی نہ مجھے اطمینان ملے گا۔

میرے ابا جان رسول اکرم ﷺ کے پاس گئے کہ آپ اس پر گواہ ہو جائیں کہ میں نے نعمان کو یہ مال دے دیا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: أَعْطِكُتْ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا کیا تم نے اپنی ساری اولاد کو اسی قدر دیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا: ”اللَّهُ تَعَالَى سے ڈرو اور اولاد کے درمیان عدل کرو“۔ تو میرے والد نے مجھ سے وہ مال لوٹالیا۔ یعنی مجھے نہ دیا۔

..... بخاری شریف، کتاب البہہ

فائدہ: اولاد کو جو مال دیا جائے اس میں برابری کا حکم شریعت مطہرہ نے دیا ہے۔ عموماً اس کا خیال والدین نہیں کرتے اور جس سے زیادہ لاذ ہوا سے دوسروں سے خواہ مخواہ زیادہ دے دیتے ہیں۔ یہ بات درست نہیں لہذا جب بھی کوئی مال، جائیداد وغیرہ کوئی چیز تقسیم کی جائے تو اولاد کے درمیان عدل قائم رکھا جائے۔ یہ اس صورت میں ہے جب والدین خود یہ سمجھیں کہ ہم شریعت اسلامیہ کے پابند

ہیں اور کل روز قیامت ہم سے ہمارے کیے پرہش بھی ہونی ہے۔

نیز مسلم شریف کے الفاظ گواہی کے حق میں بڑے سخت ہیں اور جن جھوٹ نے
والے ہیں حضور ﷺ نے فرمایا : فَلَا تُشْهِدُنِي إِذَا فَاتَكُوا لَا أَشْهَدُ عَلَى
جَوْرٍ جب تم اپنی ساری اولاد کو برابر نہیں دے رہے تو مجھے بالکل اس معاملے میں
گواہ نہ بناؤ میں کسی ظلم پر گواہ نہیں بننا چاہتا۔ اس سے بھی ہمیں ایک بڑا سبق
ملتا ہے کہ جب کہیں گواہی کا موقع آئے تو اپنے بیگانے کو نہ دیکھا جائے بلکہ حق
نامق کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ حق کی گواہی دی جائے اور کسی نامق جگہ پر کسی لالج یا
رشتہ داری یا کسی خوف کی وجہ سے ہرگز گواہی نہ دی جائے۔

۱۴۶ عورت بغیر محرم کے سفر نہ کرے

جمیب رب العالمین کے پیارے شاگرد، سیدنا ابو هریرہ رض فرماتے ہیں
کہ رسول کائنات، امام الانبیاء، تاجدار عرب و عجم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آله و سلم نے ارشاد
فرمایا.....

((لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تُسَافِرَ يَوْمًا فَمَا فُوقَهُ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو
خُرُومَةٍ))

عورت کے لیے حلال (جازن) نہیں کہ ایک دن یا اس سے زیادہ
مسافت کا سفر بغیر محرم کے طے کرے۔

..... منڈ احمد

فائدہ: (تین دن کی مسافت امام عظیم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں 48 میل

رسول اکرم ﷺ کی 125 صیحتیں

(78 کلومیٹر) بنتی ہے جو کہ مسافت سفر کھلاتی ہے۔ جس میں نماز قصر ادا کی جاتی ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ ایک دن کی مسافت تقریباً 16 میل کھلاتی۔)

﴿۱﴾ لوگو! پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو!

رئیس المفسرین سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے ایک شخص کو وصیت فرماتے ہوئے یہ مبارک الفاظ کہے: إِغْتَيْمُ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو!

- ﴿۱﴾ شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمَكَ اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو!
- ﴿۲﴾ وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمَكَ اپنی صحت کو بیماری آنے سے پہلے.....
- ﴿۳﴾ وَغِنَاكَ قَبْلَ فُقْرِيَكَ اپنی مالداری کو فقیری آنے سے پہلے.....
- ﴿۴﴾ وَفَرَاغَتكَ قَبْلَ شَغْلِكَ اپنی فراغت کو مشغولیت سے پہلے.....
- ﴿۵﴾ وَحَيَاتكَ قَبْلَ مَوْتِكَ اپنی زندگی کو موت سے پہلے پہلے غنیمت جانو!

الترغیب والترحیب للحافظ منذری

فائدہ: آپ ﷺ کی یہ پانچ باتیں دنیا بھر کے لوگوں کی نصیحتوں سے آدمی کو بے نیاز کر دیتی ہیں۔ لیکن اس شخص کو جوان باتوں پر کان دھرے، توجہ کرے یا عمل کے لیے آمادہ ہو..... اور جو سنی آن سنی کر دے اس کو حسرت و ناکامی کے سوا کیا ہاتھ آئے گا۔ ہاں مگر جس پر اللہ تعالیٰ فضل کر دے۔

۱۰۸ ہر صاحبِ حق کا حق پورا پورا ادا کرو

حضرت عون بن ابی جعیفہ اپنے والد سیدنا وہب بن عبد اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے جبیب محر رسول اللہ ﷺ نے سیدنا سلمان اور سیدنا ابوالدرداء رضی اللہ عنہما کو سلسلہ موالات میں باہم بھائی قرار دیا۔ ایک روز حضرت سلمان ملاقات کی غرض سے سیدنا ابوالدرداء رضی اللہ عنہ (کی شادی کے پچھے عرصہ بعد، ان) کے گھر آئے تو دیکھا کہ ان کی بیوی عام کپڑوں میں ہے اور اپنے شوہر کے لیے کوئی زینت بھی اختیار نہیں کی ہوئی۔ (یاد رہے کہ یہ نزولِ حجاب و پردہ سے پہلے کا واقعہ ہے) تو ان سے پوچھا کہ تم نے اپنی یہ کیا حالت بنارکھی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا: تمہارے بھائی کو (سیدنا ابوالدرداء) کو دنیا سے کچھ غرض نہیں ہے۔ میں کا ہے کو زینت اختیار کروں؟ (یعنی شوہر کو جو بیوی کی رغبت ہوتی ہے وہ انہیں نہیں ہے)۔ اس وقت بات یہیں ختم ہو گئی۔

شام کو سیدنا ابوالدرداء رضی اللہ عنہ جب گھر آئے تو کھانا پیش کیا گیا تو انہوں نے کہا: سلمان! تم کھاؤ میرا روزہ ہے۔ تو سیدنا سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا: جب تک تم نہیں کھاؤ گے تو میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ چنانچہ وہ بھی (یعنی روزہ مہمان کی خاطر توڑ کر) ساتھ کھانے لگے۔

رات جب ہوئی تو سیدنا ابوالدرداء رضی اللہ عنہ وضو کر کے قیام اللیل کے لیے کھڑے ہونے لگے تو سیدنا سلمان رضی اللہ عنہ نے انہیں کہا: آپ ابھی سوچائیے۔ تو وہ سوچ گئے۔ اور رات کے آخری پھر سیدنا ابوالدرداء رضی اللہ عنہ کو اٹھایا پھر دونوں نے نماز

رسول اکرم ﷺ کی 125 صیفیں

تہجد پڑھی اور اللہ کے حضور خوب راز و نیاز کی ۔

اس کے بعد سیدنا سلمان رضی اللہ عنہ اس سے فرمانے لگے اے ابواللہ رداء !

ستو!

- ﴿إِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ﴾ بے شک تجھ پر تیری جان کا بھی حق ہے ۔
- ﴿وَلِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقٌّ﴾ اور تجھ پر تیرے رب کا بھی حق ہے ۔
- ﴿وَلِضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ﴾ اور تجھ پر تیرے مہمان کا بھی حق ہے ۔
- ﴿وَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ﴾ اور بلاشبہ تجھ پر تیرے گھروالوں کا بھی حق ہے ۔

((فَاعْطِ كُلَّ ذِيْ حَقٍّ حَقَّهُ))

پس ہر صاحبِ حق کا پورا پورا حق ادا کرو !

صحیح نماز فخر کے لیے جب دونوں بھائی مسجد نبوی میں تشریف لائے تو
دونوں نے یہ سارا ماجرا اللہ کے پیارے حبیب، معلم انسانیت حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کے سامنے بیان کیا تو آپ خوش ہوئے اور سیدنا ابواللہ رداء رضی اللہ عنہ کو فرمایا :
سلمان نے جو کچھ تمہیں کہا ہے بالکل درست کہا ہے ۔ [حضرت ﷺ کی تقدیق
پر گویا یہ آپ ﷺ کی وصیت ہو گئی]

ترمذی، کتاب الزحد عن رسول اللہ ﷺ، بخاری، کتاب الصوم.

۱۲۸ سات ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو !

سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول رحمت ﷺ نے ارشاد فرمایا

رسول اکرم ﷺ کی 125 صیفیں

((اَجِتَبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمَا هُنَّ
قَالَ الشَّرُكُ بِاللَّهِ وَالْسِحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَمَ اللَّهُ إِلَّا
بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْبَيْسِ وَالْتَّوْلِيٍّ يَوْمَ الزَّحْفِ
وَقُذْفُ الْمُخْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْفَاقِدَاتِ))

سات ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو! صحابہ نے پوچھا: اے اللہ کے
نبی! وہ سات چیزیں کونسی ہیں؟ تب آپ ﷺ نے مندرجہ ذیل یہ
سات چیزیں بیان فرمائیں.....

■ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا۔

■ جادو کرنا / کروانا۔

■ اور کسی جان کو قتل کرنا جس کا قتل اللہ نے حرام کیا ہو۔

■ سود کھانا۔

■ تبیموں کا مال کھانا۔

■ اللہ کی راہ میں میں لڑتے ہوئے پیٹھے پھیر کر بھاگنا۔

■ پا کدا من، بھولی بھالی مومنہ عورتوں پر بہتان لگانا۔

■ بخاری شریف، کتاب الوصایا، نسائی، ابو داؤد

۱۱۰ شیطانی را ہوں پر نہ چلو!

شیدائے رسول عربی، سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ.....

((كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَطَنَا خَطَا هُن்மَّا آمَّةَ قَقَانَ

رسول اکرم ﷺ کی 125 وصیتیں

هَذَا سَبِيلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَخَطَئُنِي عَنْ يَمِينِهِ وَخَطَئُنِي عَنْ شِمَالِهِ
قَالَ هَذِهِ سَبِيلُ الشَّيْطَانِ)

ہم نبی کریم ﷺ کے پاس بیٹھے تھے کہ آپ ﷺ نے بات سمجھانے کے لیے اپنے سامنے ایک لکیر کھینچی اور فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے۔ پھر آپ ﷺ نے اس لکیر کے دائیں اور باائیں ایک ایک لکیر اور کھینچی اور فرمایا..... یہ شیطانی راستے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اس پہلی لکیر پر ہاتھ رکھا اور یہ آیت قرآنی تلاوت فرمائی.....

﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ
بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَالِكُمْ وَصُنُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾

اور جبے شک یہ سیدھا راستہ ہے پس تم اس کی اتباع کرو اور دوسرے (شیطانی) راستوں پر مت چلو کہیں وہ تمہیں اس سیدھی راہ سے بھکانہ دیں۔ یہ تمہیں حکم کرتا ہے تمہارا رب، تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ (انعام / 153)

مند احمد

۱۱۱ بھلائی کا بدلہ دیا کرو

خلیفہ راشد دوئم کے فرزند، حضرت عبید اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رحمت للعالمین ﷺ نے ارشاد فرمایا:

﴿مَنِ اسْتَغْاثَ ذُكْمُ بِاللَّهِ فَأَعْيَذُهُ﴾

رسول اکرم ﷺ کی 125 وصیتیں

وَمَنْ سَأَلَكُمْ بِاللَّهِ فَأَعْطُوهُ
وَمَنْ دَعَاكُمْ فَاجِبُوهُ
وَمَنْ أَتَى إِلَيْكُمْ مَعْرُوفٌ فَلْكَافِئُوهُ

جو اللہ تعالیٰ کے نام پر پناہ مانگے اسے پناہ دو اور جو اللہ تعالیٰ کے نام پر سوال کرے اسے بھی دو اور جو تمہاری دعوت کرنے کے اسے قبول کرو اور جو تمہارے ساتھ بھلائی کرے تم اس کا بدلہ دو۔ اور اگر اسے بدلہ دینے کے لیے کچھ نہ ملتے تو اس کے لیے دعا کرو حتیٰ کہ تم یہ جان لو کہ تم نے اس کا بدلہ پورا دے دیا۔

ابوداؤد کتاب الادب، ورواه النسائی فی کتاب الزکوة

⑪۲ دل میں کسی کے لیے کیسہ نہ رکھو !

رسول مقبول ﷺ کے خادم، سیدنا انس بن مالک سے روایت ہے کہ آقا نے عرب و عجم رسول اللہ ﷺ نے مجھے [ایک خاص وصیت کرتے ہوئے] فرمایا: یا بُنْجَیٰ..... اے میرے بیٹے! اگر ہو سکے تو اپنی صبح اور شام اس طرح کیا کرو.....

(لَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشٌّ لَا حَدٌ)

کہ تمہارے دل میں کسی کے لیے کوئی کیسہ یا برائی موجود نہ ہو۔

پھر آپ ﷺ نے انتہائی شفقت سے مزید ارشاد فرمایا: میرے بیٹے! یہ میری سنت ہے۔ اور جس شخص نے میری سنت پر عمل کیا تو اس نے درحقیقت مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہو گا۔

ترمذی، کتاب العلم عن رسول اللہ ﷺ

۱۱۳ بھلائی کے چند کاموں کی وصیت

تاجدارِ مدینہ کے پیارے جاثر، سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ رسول کا نات
صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک لمبی حدیث روایت فرماتے ہیں جس میں ہے کہ ایک محسن نے آپ
سے عرض کی:

((عَلِمْنِي عَمَّا لَا يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ))

اے اللہ کے رسول ﷺ! مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں لے
جائے! تو محسن انسانیت، حضرت محمد رسول اللہ ﷺ نے اسے بہت قیمتی فصیحت و
وصیت فرمائی:

((فَاطِعِمُ الْجَائِعَ وَأْسِقُ الظَّمَآنَ وَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهِ عَنِ
الْمُنْكَرِ قَاتِلُ لَمْ تُطِقْ ذَالِكَ فَكُفَّ لِسَانَكَ إِلَّا مِنَ الْخَيْرِ))

تم بھوکے کو کھانا کھاؤ!

پیاسے کو پانی پلاو!

نیکی کا حکم کرو..... اور

لوگوں کو برائی سے روکو!

اور اگر یہ سب کچھ نہ کر سکو تو (انتا ضرور کرلو) کہ اپنی زبان سے بھلی بات
کے علاوہ کچھ نہ بولو۔

۱۱۴ لوگوں سے مہربانی سے پیش آؤ

سیدنا جریر بن عبد اللہ ؓ [وہ خوش نصیب صحابی ہیں جن پر میرے آقا ﷺ کی جب بھی نگاہِ ناز پڑی تو آپ نے انہیں مسکرا کر دیکھا] نے رسول ﷺ کی کائنات ﷺ کی قیمتی و صیحت اور بہترین ارشاد منقول ہے کہ.....

((مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ))

جو شخص (دوسروں پر) رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔

..... بخاری شریف، کتاب الادب

سیدنا عبد اللہ بن عمر ؓ فرماتے ہیں کہ حبیب کائنات حضرت محمد رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا..... أَرَأَيْمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ، إِرْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمُكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ مہربانی کرنے والوں پر رحم مہربانی فرماتا ہے۔ لہذا تم زمین والوں پر رحم کرو..... آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔

..... ترمذی، کتاب البر والصلة

۱۱۵ باہم بھائی بھائی بن جاؤ!

احادیث رسول اللہ ﷺ کے عظیم شیدائی، سیدنا ابو ہریرہ ؓ سے منقول ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اللہ تمہاری صورتوں اور تمہارے مال و دولت کی طرف نہیں دیکھتا، بلکہ تمہارے دلوں اور تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے۔

⊗ تم آپس میں حسد نہ کیا کرو....!

⊗ مکرو فریب سے کام نہ لیا کرو..!

باہم غیظ و غضب سے بچو..... اور
ایک دوسرے سے تعلق نہ توڑو!

نیز تم میں سے کوئی شخص دوسرے مسلمان بھائی کے سودے پر [اس کا سودا باطل کرنے کی غرض سے] سودا نہ کرے۔ یعنی اس کا سودا رہ جائے میرا پہلے پک جائے۔

((وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا))

تم سب اللہ کے بندے باہم بھائی بھائی بن جاؤ۔ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے نہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اس کو رسوا کرتا ہے، نہ اس سے جھوٹ بولتا ہے نہ اسے حقیر کرتا ہے۔ پھر آپ ﷺ نے اپنے مبارک سیدنا کی جانب اشارہ کرتے ہوئے یہ بات تین بار ارشاد فرمائی: تقویٰ یہاں ہوتا ہے، تقویٰ یہاں ہوتا ہے تقویٰ یہاں ہوتا ہے۔

نیز فرمایا..... ایک شخص کے نہ رہنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر و مکترب سمجھے۔ یاد رکھو! ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون بہانا، مال ہتھیانا، اور آبروریزی کرنا صریحاً حرام ہے۔

مسلم شریف، کتاب البر والصلة والآداب

۱۱۶ نوجوانوں کو حیا قائم رکھنے کی وصیت

تاجدارِ فقاہت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اپنے آقا کا ارشاد، نوجوانانِ امت کو بتاتے ہیں..... کہ داتا نے سبل آقا ختم الرسل ﷺ نے فرمایا.....

بِاَمْعَشْرِ الشَّيَّابِ

((مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيُتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ
لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ))

اے نوجوانو! تم میں سے جو نوجوان خانہ داری کے اخراجات کی استطاعت رکھتا ہو وہ شادی کر لے، کیونکہ یہ غضض بصر (پست نگاہی) کا محفوظ ذریعہ اور شرمگاہ کی حفاظت کا بہت بڑا سبب ہے۔ اور جو ایسا نہ کر سکے وہ اپنے لیے روزے رکھنا لازم کر لے۔ اس لیے کہ اس کا علاج اسی میں ہے۔

 بخاری، کتاب النکاح (مسلم شریف اور دیگر تین احادیث میں مَنِ اسْتَطَاعَ کے بعد مِنْكُمْ کا الفاظ بھی آیا ہے جو کہ زیادہ مشہور و متداول ہے۔)

 **۱۱) بڑھاپے میں شوق علم رکھنے والے کو شاندار و صیحت**
ایک تابعی ابو گریر یہ سچھاندہ کہتے ہیں کہ بصرہ کے ایک آدمی نے مجھے بتایا کہ بارگاہِ نبوت میں ایک روز سیدنا قبیصہ بن مخارقؑ خالقؑ خاطر ہوئے، فرماتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ میری جانب متوجہ ہوئے اور پوچھا: قبیصہ! کیسے آئے ہو؟ میں نے جواب دیا.....

میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں، بڑیوں کا ڈھانچہ رہ گیا ہوں..... میں اپنی اس کیفیت کے ساتھ آپ کے پاس یہ شوق لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ کسی ایسی چیز کی تعلیم دیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ مجھے بہت نفع عطا فرمائے! آپ ﷺ نے

بشارت سنائی کہ..... اے قبیصہ! جو مقصد تم لے کر آئے ہواں کی وجہ سے [تم جس پتھر، درخت یا زمین کے پاس سے گزرے ہواں نے تمہاری بخشش کی دعا کی ہے۔ پھر آپ ﷺ نے انہیں یہ فرمایا: اے قبیصہ! نمازِ فجر کے بعد تمن باریہ پڑھ لیا کرو۔ تم اندھے پن، جذام اور فانج سے ہمیشہ عافیت میں رہو گے۔ سُبْحَانَ

اللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ

پھر آپ ﷺ نے ان کے پاکیزہ جذبے کی قدر افزائی میں انہیں یہ دعا سکھائی..... کہواے قبیصہ! أَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِمَّا إِنْدَكَ

وَأَفْضِ عَلَىٰ مِنْ قَضْلِكَ

وَأَنْشُرْ عَلَىٰ مِنْ رَحْمَتِكَ

وَأَنْزِلْ عَلَىٰ مِنْ بَرَّ كَاتِكَ۔

اے اللہ! جو کچھ تیرے خزانوں میں ہے میں اس کا سوال کرتا ہوں، مجھ پر اپنے فضل کی باش بر سادے، اپنی رحمتیں مجھ پر شارکر دے اور اپنی برکتوں کا مجھ پر نزول فرم۔

..... مند احمد

۱۱۸ روزانہ بدن کے ہر جوڑ کے بد لے صدقہ کیا کرو

تاجدارِ فقر، سیدنا ابو ذر ؓ، رسول ذیشان کا فرمان عالیشان روایت فرماتے ہیں کہ..... روزانہ تم پر بدن کے ہر جوڑ اور ہر حصے کے عوض میں صدقہ کرنا ضروری ہے (صحابہ کرام ﷺ سوچنے لگے کہ روزانہ اس قدر صدقہ کیسے کیا کریں،

کر رسول اکرم ﷺ کی 125 وصیتیں
اس کے لیے تو بہت سے نال کی ضرورت ہے تو آپ ﷺ نے خود ہی) ارشاد فرمایا

دو آدمیوں کے درمیان صلح کر دینا بھی صدقہ ہے۔ کسی بھائی کو سامان اس کی سواری پر رکھو دینا یا اتار دینا بھی صدقہ ہے۔ بھلی بات کہنا بھی صدقہ اور نماز کی جانب ہر قدم کا انٹھانا بھی صدقہ ہے۔ اور راستہ سے تکلیف دیتے والی چیز کا انٹھا دینا بھی صدقہ میں شامل ہے۔

اس طرح کی اور احادیث میں یہ بھی ہے

سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے۔ الحمد للہ کہنا بھی صدقہ ہے۔ لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے۔ نیکی کا حکم دینا بھی صدقہ اور برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے۔

((وَيُبَحِّرُ مِنْ ذَالِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الصَّحْنِ))

(اور یاد رکھو!) چاشت کے وقت کی دور رکعت ان سب کے بد لے میں کافی ہیں۔

..... مسلم شریف، کتاب صلاۃ المسافرین وقصرها

⑯ فرانض میں کوئی ہی کسی صورت درست نہیں

﴿ایک دیہاتی آدمی کے لیے آسان وصیت﴾

عظمیم حدیث حضرت ابو زریہ رحمۃ اللہ علیہ، سیدنا ابو هریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ ایک دیہاتی آدمی رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا اور

رسول اکرم ﷺ کی 125 صفحیں

کہنے لگا! اے رسول خدا! مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں لے جائے!
زبانِ نبوت سے یہ الفاظ صادر ہوئے.....

اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی شریک مت ٹھہراو۔

بُنْجَانَة فِرْضٌ ثَمَازْ قَامَ كَرُو

فِرْضٌ زَكُوٰۃ ادَا کرتے رہو

رمضان المبارک کے روزے رکھتے رہو۔

اس شخص نے کہا: اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ میں اس سے زیادہ کروں گا نہ اس سے کم۔ پھر وہ چلا گیا..... تو رسول اللہ ﷺ نے اس کے لیے ایک پُر مسرت اعلان فرمایا:

((مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا))

جو شخص چاہے کہ کسی جنتی آدمی کو دیکھوں تو وہ اس شخص کو دیکھے لے۔

بخاری شریف، کتاب الزکوٰۃ۔ مسلم شریف، کتاب الایمان۔ اس سے ملتے

جلتے مضمون کی احادیث میں بوقت استطاعت اویگی حج کا بھی حکم موجود ہے۔

فائدہ: اس حدیث سے یہ نہ سمجھا جائے کہ فرائض کے علاوہ سنتوں اور نوافل کی کوئی حیثیت نہیں۔ بخاری شریف کی اس حدیث کے تحت فتح الباری بشرح صحیح

ابخاری کے الفاظ بہت عمدہ..... اور لائق فکر ہیں "وقد كان صدر الصحابة

ومن تبعهم يواظبون على السنن مواظبتهم على الفرائض" "تحقيق اولين

جماعیت صحابہ اور بعد میں آنے والے تابعین بھی سنتوں کو اس قدر باقاعدگی کے

رسول اکرم ﷺ کی 125 صیغہ ساتھ ادا کرتے تھے جیسے فرانس کا ان کے ہاں اہتمام پایا جاتا تھا۔

۱۲۰) کبیرہ گناہوں سے بھی بڑے گناہ

سیدنا عبدالرحمٰن بن ابو بکرہ رضی اللہ عنہ اپنے والدِ گرامی سے روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول کریم ﷺ کے پاس موجود تھے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا..... کیا میں تمہیں سب کبیرہ گناہوں سے بھی بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ (ہم نے کہا جی ضرور بتائیے!) تو آپ ﷺ نے اپنی زبانِ نبوت سے یہ الفاظ صادر فرمائے.....

((اَلَا شَرَّاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَشَهَادَةُ الرُّؤُرِ اَوْ قَوْلُ الرُّؤُرِ))

اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ہرانا
والدین سے تعلق توڑنا

(آپ ﷺ نکیہ لگائے بیٹھے تھے، سید ہے ہو کر بیٹھے اور تیسری بات سے آگاہ فرمایا.....)

جھوٹی گواہی دینا۔ یا جھوٹی بات کہنا۔

((فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَّتَ))

(آپ ﷺ اس بات کو بار بار دہراتے رہے تھی کہ ہم دل ہی دل میں ترپ کر کہنے لگے کہ کاش اب اللہ کے نبی ﷺ خاموش ہو جائیں۔)

مسلم شریف، کتاب الایمان

۱۲۱) ایک صحابیہ کو گھر میں نماز پڑھنے کی وصیت اور ان کا عمل حضرت ابو حمید ساعدی رض کی زوجہ، حضرت ام حمید ساعدی رض رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا!

((بَارَسُواْ اللّهُ اِنّى أُحِبُّ الصَّلوٰةَ مَعَكُمْ))

یا رسول اللہ ﷺ، میرا جی چاہتا ہے کہ آپ ﷺ کے ساتھ (مسجد نبوی میں) نماز پڑھوں۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ مجھے معلوم ہے کہ تو میرے ساتھ نماز پڑھنا چاہتی ہے۔ لیکن تیرا ایک گوشے میں نماز پڑھنا، اپنے کمرے میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ اور تیرا کمرے میں نماز پڑھنا، گھر کے صحن میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ اور تیرا گھر کے صحن میں نماز پڑھنا، محلہ کی مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ اور تیرا محلہ کی مسجد میں نماز ادا کرنا میری مسجد میں نماز ادا کرنے سے افضل ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت ام حمید ساعدی رض نے (اپنے گھر میں مسجد بنانے کا) حکم دیا چنانچہ ان کیلئے گھر کے آخری حصہ میں مسجد بنائی گئی، جسے تاریک رکھا گیا (یعنی اس میں کوئی روشن دانہ نہ تھا)

((فَكَانَتْ تُصَلِّي فِيهِ حَتَّى لَقِيتِ اللّهَ عَزَّ وَ جَلَّ))

اور وہ ہمیشہ اس میں نماز پڑھتی رہیں حتیٰ کہ اپنے رب عز و جل سے جا لمیں۔

..... مند احمد، ابن حبان، ابن خزیمہ

۱۲۲) وہ مجلس باعث حسرت رہے گی

حضرت ابو ہریرہ رض کہتے ہیں کہ، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس مجلس

کر رسول اکرم ﷺ کی ۱۲۵ صیحتیں میں لوگ اللہ کا ذکر کریں نہ نبی کریم ﷺ پر درود شریف پڑھیں، وہ مجلس قیامت کے دن ان لوگوں کیلئے باعث حسرت ہوگی۔ کہ پھر اللہ چاہے تو انہیں معاف کر دے چاہے تو عذاب دے۔

..... ترمذی، کتاب الدعوات

بعض مقاماتِ حدیث میں ہے..... وہ مجلس قیامت کے دن ان لوگوں کیلئے باعث حسرت ہوگی وَإِنْ دَخَلُوا الْجَنَّةَ لِلثَّوَابِ خواہ وہ نیک اعمال کے بدالے جنت میں ہی کیوں نہ چلے جائیں۔ منداحمد، ابن حبان، حاکم

..... ایک توجہ طلب بات

محرز قارئین! میں اپنی ہر کتاب میں درود شریف کے کچھ فوائد و برکات ضرور لکھتا ہوں..... تاکہ لوگوں کی طبائع اس جانب زیادہ مائل ہوں اور رسول اللہ ﷺ سے ثابت و منقول درود شریف پڑھ کر دنیوی اور آخری فوائد حاصل کر سکیں۔ تو اسی تناظر میں..... ذیل میں رسول اللہ ﷺ کے پانچ فرمانیں مقدسہ اور ایک درود شریف لکھ رہا ہوں۔

..... حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا! جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ مسلم، نسائی، ترمذی

..... حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھے گا، تو اللہ رب العالمین اس پر دس رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اور اس کی دس خطائیں معاف کی جائیں گی، اور اس کے

رسول اکرم ﷺ کی 125 صحتیں

دش درجے بلند کئے جائیں گے۔ نسائی، مسند احمد، مسند رک حاکم
حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا! جو
شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین اس پر ستر حمتیں
نازل فرماتا ہے۔ اور فرشتے ستر مرتبہ دعائے رحمت کرتے ہیں۔ نسائی

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ
نے فرمایا! جو شخص مجھ پر بکثرت درود شریف پڑھتا ہے، قیامت کے روز وہ سب
سے زیادہ نیرے قریب ہوگا۔ ترمذی

حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ
میں کثرت سے درود شریف پڑھتا ہوں، اپنی دُعا میں سے کتنا وقت درود شریف
کیلئے وقف کروں؟ نبی کریم ﷺ نے فرمایا! جتنا تو چاہے۔ میں نے عرض کیا:
ایک چوتھائی صحیح ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا! جتنا تو چاہے، میں نے عرض کیا:
نصف وقت مقرر کروں آپ ﷺ نے فرمایا! جتنا تو چاہے، لیکن اگر اس سے زیادہ
کرے تو تیرے لئے اچھا ہے۔ میں نے عرض کیا: دو تہائی مقرر کروں؟ آپ
ﷺ نے فرمایا! جتنا تو چاہے، لیکن اگر زیادہ کرے تو تیرے ہی لئے بہتر ہے۔
میں نے عرض کیا، میں اپنی ساری دُعا کا وقت درود شریف کیلئے وقف کرتا ہوں۔
اس پر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا! یہ تیرے سارے دکھوں اور غموں کیلئے کافی ہوگا
اور تیرے گناہوں کی بخشش کا سامان ہوگا۔ (ترمذی)

ایک بہت قیمتی درود شریف

جو کے پڑھنے سے سونے چاندی کے ڈھیر اللہ کی راہ میں صدقہ

کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ وہ درود پاک یہ ہے.....
 ((اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُولِكَ وَ صَلِّ عَلَى الْمُؤْمِنِ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ))

ترجمہ: الہی! اپنے بندے اور اپنے رسول حضرت محمد ﷺ پر رحمتیں نازل فرماء، اور مہربانیاں فرماء، تمام اہل ایمان مردوں، عورتوں پر اور مسلمین و مسلمات پر۔ ﴿صحیح ابن حبان﴾

۳۳ پانچ اعمال کی وصیت

ترمذی شریف کی حدیث پاک میں مروی ہے کہ:
 حضرت صحیح بن زکریا علیہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے پانچ چیزوں کا حکم دیا کہ وہ خود بھی کریں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ انہوں نے لوگوں کو بیت المقدس میں جمع کیا مسجد بھر گئی اور لوگ اوہر اور بلنڈ جگہوں پر اور شیلوں پر بھی بیٹھ گئے۔ تو حضرت صحیح علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پانچ چیزوں کا حکم دیا ہے کہ میں خود بھی بجا لاؤں اور تمہیں بھی بتاؤں تاکہ تم بھی ان پر عمل کرو۔

♦ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ پھراؤ۔ اور اللہ کے ساتھ شریک پھرانے کی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی نے خاص اپنے مال سے ایک غلام خریدا۔ اسے بتایا کہ یہ میرا گھر ہے اور یہ میرا کام کا ج ہے یہ کام کرو اور جو نفع حاصل ہو وہ مجھے لا کر دیتے رہو۔ غلام نے اپنی بے وقوفی سے یہ کیا کہ اس کام میں جو نفع ہوا وہ اپنے مالک کو دینے کی بجائے

رسول اکرم ﷺ کی 125 صیفیں

کسی اور کو دیتا رہا۔ کون ہے جو ایسے غلام کی طلب کرے؟ اس مثال سے یہ سمجھایا گیا کہ انسان کو پیدا تو اللہ تعالیٰ نے کیا اور وہ اس کے حکم نہیں مانتا اور اسے خوش نہیں کرتا بلکہ اوروں کی مرضی کے اعمال کرتا ہے انہیں خوش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں چاہتا بلکہ بندوں کی رضا کا طالب بن جاتا ہے۔ اور اپنے حقیقی مالک کو ناراض کر لیتا ہے۔ ایسا غلام کسی کو پسند نہیں۔ لہذا شرک کو بھی ناپسند جانو۔

♦ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ نماز ادا کیا کرو۔ اور دورانِ نماز ادھر ادھر توجہ نہ کیا کرو۔ اور خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ کی توجہ (نظرِ رحمت) اس وقت تک بندے کی جانب متوجہ رہتی ہے جب تک وہ اپنا دھیان اللہ کی جانب رکھے۔

♦ اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ روزہ رکھا کرو۔ اور روزہ دار کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص چند لوگوں کے ساتھ چل رہا ہو اور اس کے پاس ایک تھیلی میں عمدہ خوبیوں اور سب لوگ اس کی اس خوبیوں کو بہت پسند کر رہے ہوں۔ بے شک روزہ دار کے منہ کی بُو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس تھیلی کی خوبیوں سے بھی کہیں زیادہ پسندیدہ ہے۔

♦ میں تمہیں صدقہ کا حکم کرتا ہوں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی کو دشمن نے قید کر لیا اور اس کی مشکلیں گس دیں اور اس کی گردن مارنے کے لیے اسے آگے لانا چاہ رہے تھے کہ اس نے کہا میری بات سنو! میری ملکیت میں جو تھوڑا بہت مال ہے وہ میری جان کے فدیہ کے طور پر قبول کرو۔ انہوں نے اس کا سب مال لے لیا اور اس کی جان بخشنی کر دی۔ (ایسے ہی صدقہ مصائب سے چھٹکارا دلاتا ہے)۔

رسول اکرم ﷺ کی 125 صفحہ

◆ اور میں تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر خوب کیا کرو اس کی مثال یوں سمجھو کہ ایک آدمی کے پیچھے اس کے دشمن دوڑ رہے ہیں یہاں تک کہ اس کو ایک قلعہ نظر آیا وہ اس میں داخل ہو گیا اور دشمنوں سے جان بچائی۔ اسی طرح انسان ذکر اللہ کے ذریعے اپنے نفس کو شیطان سے بچا سکتا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ کا ذکر بندہ کیلئے قلعہ کی مانند ہے۔

حضرت ﷺ نے فرمایا کہ میں بھی تمہیں پانچ چیزیں بتاتا ہوں جن کا اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے.....

﴿ اطاعت ﴿ جہاد ﴾ بحرت

﴿ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ ہی رہنا۔ اس لیے کہ جو ایک بالشت برابر بھی جماعت سے ہٹا اس نے اپنی گردن سے اسلام کا پسہ اتار پھینکا سوائے اس کے کہ وہ لوٹ کر جماعت سے آ ملے۔

﴿ اور جس نے جاہلیت کا آوازہ بلند کیا بے شک وہ بھی جہنم میں گرا یا جائے گا۔ ایک آدمی نے سوال کیا: اے اللہ کے رسول ﷺ اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہو اور روزہ بھی رکھتا ہو؟ فرمایا ہاں اس کے باوجود بھی۔ سو تم اللہ کے دین کا آوازہ بلند کرو، وہ اللہ جس نے تمہارا نام مسلم رکھا۔

..... ترمذی شریف، کتاب الامثال عن رسول اللہ ﷺ

﴿ اپنے اندر بخشش کی چاہت رکھو

ہر شخص سے زندگی میں کچھ خطا کیں تو ہو ہی جاتی ہیں شریعت مطہرہ نے ان

رسول اکرم ﷺ کی 125 صیتیں

خطاوں پر توبہ کرنے، اللہ کی جانب رجوع کرنے اور بخشش کی چاہت کے ساتھ استغفار کرنے کا حکم دیا ہے۔ نیز انبیاء تمام خطاوں سے محروم ہوتے ہیں اور خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ ﷺ کی کیا بات! کہ وہ تو امام المحصو میں ہیں۔ لیکن انہیں کے باوجود، اللہ کا ہر لخڑہ زیادہ سے زیادہ قرب پانے کے لیے اور امت کو استغفار کی جانب عملی طور پر متوجہ کرنے کے لیے آپ کا یہ ارشاد مبارک کتنا ہم ہے اور یہ وصیت کتنی گہری ہے۔ کہ آپ ﷺ فرماتے ہیں.....

سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما تھے جیسے کہ رسول کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

((يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتُوبُوا إِلَى اللَّهِ فَإِنَّمَا أَتُوْبُ فِي الْيَوْمِ إِلَيْهِ مَا فَرَأَيْتُ))
اے لوگو! اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کیا کرو، میں بھی روزانہ اس کے حضور سو مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔

مسلم شریف، کتاب الذکر والدعا وال-tonah والاستغفار

نیز آپ ﷺ نے اپنے ایک خطبہ میں امت کو یہ حکم دیا اور مندرجہ ذیل وصیت فرمائی ہے:

((يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتُوبُوا إِلَى اللَّهِ فَإِنَّمَا أَتُوْبُ إِلَيْهِ مَا تَعْوَدُوا))
اے لوگو! اللہ کے حضور توبہ کر لوقبل اس کے کہ تمہیں موت آئے۔

ابن ماجہ، کتاب اقامة الصلاة والسنة فيما

زیادہ فضیلت والے توبہ واستغفار کے مسنون الفاظ
یوں تو توبہ واستغفار کے لیے بہت سے الفاظ قرآن و سنت میں وارد ہیں

رسول اکرم ﷺ کی 125 صیحتیں

مشائی سید الاستغفار کہ جو آدمی اسے صحیح پورے یقین سے پڑھے اور دن میں فوت ہو جائے یا شام کو پورے یقین سے پڑھے اور رات میں فوت ہو جائے تو جنت اس پر واجب ہو جاتی ہے۔ (بخاری، ترمذی، کتاب الدعوات) نیز ہمارے آقا کے جلیل القدر صحابی، سیدنا عبداللہ بن عمر ؓ سے منقول ہے کہ نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ نے فرمایا: جو شخص یہ کلمات کہے تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتے ہیں، خواہ میدان جہاد سے ہی بھاگا ہو۔ دوسری روایت میں ہے کہ اگرچہ اسکے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔

((أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَقُّ الْقَيُّومُ وَ أَتُوبُ إِلَيْهِ))
(شیخ مرجہ)

ترجمہ: میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں اس اللہ سے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ وہ زندہ رہنے والا، قائم رکھنے والا ہے۔ اور اسکی طرف توبہ کرتا ہوں۔ (بخاری و مسلم)

ایک چھوٹا سا مسنون استغفار یہ بھی ہے۔ کم از کم اسے ہی سو بار پڑھ لیا جائے..... اور تعمیل حکم کر لی جائے.....

((اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَ تُبْ عَلَيَّ))

ترجمہ: اے اللہ! تو مجھے بخش دے اور میری توبہ قبول فرماء تو مجھ پر مہربانی فرماء۔

۱۲۵ حقوق انسانی کا سب سے بہترین چارٹر

نسل انسانی کے لیے سب سے زیادہ پُر اثر و صیت

﴿ تاریخ کے بے مثال اجتماع میں ایک لا زوال خطبہ ﴾

خطبۃ حجۃ الوداع

تاریخ انسانی میں یہ لمحہ صرف ایک بار آیا کہ نبیوں کے امام نے اپنے سارے پچ اور مخلص شیدائیوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جمع فرمایا اور پھر انہیں انسانی زندگی کا ایک سب سے جامع منشور عطا فرمایا جو رہتی نسلوں تک اور صحیح قیامت تک انسانیت کی صحیح اور مکمل راہنمائی کرتا رہے گا۔ آئیے ہم اسے پڑھنے اور سمجھنے کی سعادت حاصل کریں اور پھر اس کو اپنے عمل میں لا کر اس کی اشاعت و پرچار کریں۔ یقیناً اقوامِ مسلم کے لیے اس سے بڑا کوئی انسانی حقوق کا چارٹر نہیں۔ وہ لوگ بد قسمت ہیں جنہیں اپنے نبی ﷺ کے ارشادات اور ان کی تعلیمات کی گہرائی اور تقدس کا علم نہیں اور وہ اقوامِ متحده اور غیروں کی جانب اپنی راہنمائی کے لیے دنیدے پھاڑ کر دیکھ رہے ہیں۔ آئیے اپنے پچھے صدر دکا دامن پکڑیں، آئیے ہم معلم انسانیت کی تعلیمات کو سمجھیں، آئیے پیارے آقا سے پچھے پیار کا عہد کریں خدا کی قسم! وہ تو ہمارے ماں باپ سے بھی کہیں زیادہ ہم پرشفیق اور مہربان تھے اور ہماری سچی خیرخواہی کرنے والے تھے۔ آج جو لوگ ان کی تعلیمات پر توجہ نہیں دیتے وہ کل روز قیامت نہیں کیا مسئلہ دکھائیں گے۔

اللہ تعالیٰ کی حمد و شکر کے بعد آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا.....

رسول اکرم ﷺ کی 125 وصیتیں

((اَيُّهَا النَّاسُ اسْمَعُوا قَوْلِي ، فَالَّتِي لَا ادْرِى لَعَلَى لَا الْقَاتِلُ
بَعْدَ عَامِي هَذَا بِهُدَا الْمُوْقَفُ ابْدَأ ،))

لوگو! میری بات سنو! شاید کہ اس سال کے بعد اس مقام پر میں تم سے
کبھی نہیں مل سکوں گا۔

((اَيُّهَا النَّاسُ اَنْ دَمَائِكُمْ وَ اِمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حِرَامٌ اِلَّا انْ تَلْقُوا
رَبَّكُمْ ، كَحُرْمَةٍ يَوْمَكُمْ هَذَا وَ كَحُرْمَةٍ شَهْرَكُمْ هَذَا ، وَ اِنْكُمْ
نَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فِي سَالَكُمْ عَنْ اَعْمَالِكُمْ وَ قَدْ بَلَغْتُ))

لوگو! تمہارے خون اور تمہارے اموال ایک دوسرے پر ایسے حرام ہیں
جس طرح آج کے اس دن کی اور اس مہینے کی حرمت ہے، یہاں تک
کہ تم اپنے رب سے جامزو، اور تم عنقریب اپنے رب سے ملوگے، پس
وہ تم سے تمہارے اعمال کے متعلق پوچھھے گا، میں نے (تم تک) یہ
بات پہنچادی۔

((فَمِنْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَانَةً فَلْيُؤْدِهَا إلَى مَنْ أَنْتَمْنَهُ عَلَيْهَا))
لہذا جس کے پاس کسی کی امانت ہو وہ امانت اس کے مالک تک
پہنچادیے۔

((وَ اَنْ كُلَّ رِبًا مَوْضِعٌ ، وَ لَكُنْ لَكُمْ رُؤُسُ اِمْوَالِكُمْ لَا
تَظْلِمُونَ وَ لَا تُظْلَمُونَ وَ قُضَى اللَّهُ اِنَّهُ لَا رِبَا ، وَ اَنْ رِبَا عَبَas
بْنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ مَوْضِعٌ كُلُّهُ))
جاہلیت کے تمام ہو دیا اپنے گئے، البتہ اصل رأس المال لے

رسول اکرم ﷺ کی 125 وصیتیں

سکتے ہو، تاکہ نہ تم دوسروں پر ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم ہو۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ سود باطل ہے، عباس بن عبد المطلب کا سود بھی باطل ہے۔ (حضرت عباس رض اسلام لانے سے پہلے سودی کاروبار کرتے تھے، بہت سے لوگوں کے ذمہ ان کا سود باتی تھا آپ ﷺ نے اپنے پچا کا تمام سود باطل قرار دے دیا)۔

((وَإِن كُلَّ دَمٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضِعًا، وَإِنَّ أَوَّلَ دَمَائِكُمْ أَضَعُ دَمٍ أَبْنَى رَبِيعَةُ بْنُ الْحَارِثَ بْنُ عَبْدِ الْمُطَلَّبِ))
زمانہ جاہلیت کے تمام خون آج سے باطل کر دیے گئے ہیں، سب سے پہلے میں (اپنے ہی خاندان کے ایک فرد) ربیعہ بن الحارث بن عبد المطلب کے بیٹے کا خون معاف کرتا ہوں۔

((إِنَّمَا بَعْدَ، إِيَّاهَا النَّاسُ! فَإِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَشَّمُ مِنْ أَنْ يَعْبُدَ بَارِضَكُمْ هُذَا أَبْدًا، وَلَكِنَّهُ أَنْ يَطْعَمَ فِيمَا سُوِّيَ ذَالِكُ، فَقَدْ رَضِيَ بِهِ مَا تَحْقِرُونَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ، فَاقْحَذُرُوهُ عَلَى دِينِكُمْ))
لوگو! شیطان اس بات سے اب مایوس ہو چکا ہے کہ تمہاری اس سرز میں میں اس کی عبادت کی جائے لیکن عبادت کے علاوہ دوسرے چھوٹے اعمال میں اگر اس کی پیروی کی گئی تو وہ اس پر بھی راضی رہے گا، لہذا اپنے دین کے سلسلہ میں اس بچتے رہنا۔

((إِيَّاهَا النَّاسُ! إِنَّ النَّسَّيْنِ زِيَادَةً فِي الْكُفُرِ يَضْلُلُ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يَحْلُونَهُ عَامًا وَيَحْرُمُونَهُ عَامًا، لَيَوَاطَّنُوا عَدَّةً مَا حَرَمَ

الله ، فيحلوا ما حرم الله ، ويحرموا ما أحل الله))
 لوگو! نبی (مہینوں کو آگے پیچھے کر لینا) کفر میں زیادتی کا سبب
 ہے اس کے ذریعے کافر مزید گمراہ ہوتے ہیں ، وہ ایک سال حرام
 مہینوں کو حلال کر لیتے اور دوسرے سال انہی کو حرام قرار دے دیتے
 تھے تاکہ اس طرح وہ اٹھر حرم کی گنتی پوری کریں ، چنانچہ وہ ان مہینوں
 کو حلال کر دیتے تھے جن کو اللہ نے حرام کیا ہے اور جن مہینوں کو اللہ
 نے حلال کیا ہے ان کو حرام قرار دیتے تھے۔

((وَإِنَّ الزَّمَانَ قَدْ أَسْتَدَارَ كَهْيَتَهُ ، يَوْمَ خَلْقِ اللَّهِ السَّمَوَاتِ
 وَالْأَرْضِ ، وَإِنْ عَدَةَ الشَّهُورُ عِنْدَ اللَّهِ إِثْنَا عَشْرَ شَهْرًا ، مِنْهَا
 أَرْبَعَةٌ حَرَمٌ ، ثَلَاثَةٌ مُتَوَالِيَّةٌ وَرَجَبٌ مُضْرِبُ الدِّينِ بَيْنَ جَمَادِيٍّ
 وَشَعْبَانَ))

بے شک اب زمانہ اپنی اس ابتدائی حالت پر لوٹ آیا ہے جس پر وہ اس
 ڈن تھا جس دن اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا تھا ، اللہ کے
 ہاں سال کے بارہ مہینے ہیں ، ان میں چار حرمت والے ہیں ، تین تو
 مسلسل ہیں (یعنی ذی قعده ، ذی الحجه ، محرم) اور ایک ماہ رجب ہے
 جس کا قبیلہ مضر خاص احترام کرتا ہے جو بھادی الشانیہ اور شعبان کے
 درمیان واقع ہے

((إِنَّمَا بَعْدَ ، اِيَّهَا النَّاسُ ! فَانْ لَكُمْ عَلَى نَسَائِكُمْ حَقًا وَلَهُنَّ
 عَلَيْكُمْ حَقًا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ اَنْ لَا يَوْطَّنْ فَوْشَكُمْ اَحَدًا تَكْرَهُونَهُ

وعلیہن ان لایاتین بفاحشة مبینة))

لوگو! تمہاری عورتوں پر تمہارے کچھ حقوق ہیں اور اسی طرح تم پر ان کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ تمہارا ان پر یہ حق ہے کہ وہ کسی ایسے آدمی کو تمہارے بستر پر نہ بیٹھنے دیں جسے تم پسند نہ کرتے ہو اور یہ کہ وہ کھلی بے حیاتی کا کوئی کام نہ کریں۔

((فَإِنْ فَعَلُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذْنَ لَكُمْ إِنْ تَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَتَضْرِبُوهُنَّ ضَرَبًا غَيْرَ مُبِرَّحٍ فَإِنْ أَنْتُمْ بِهِنَّ فَلَهُنَّ رِزْقُهُنَّ وَكَسُوتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ))

پس اگر وہ ایسا کریں تو اللہ نے تم اس بات کی اجازت دی ہے کہ تم ان کی سونے کی جگہ کو اپنے سے الگ کر دو (اگر وہ پھر بھی باز نہ آئیں تو) پھر تمہیں اجازت ہے کہ تم ان کو ہلکی مار مارو، جس سے بدن پر نشان نہ پڑیں، اگر وہ بازاً آگئیں تو حسب دستور ان کا کھانا اور کپڑا تمہارے ذمہ ہے۔

((وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا ، فَإِنَّهُنَّ عِنْدَكُمْ عِوَانٌ لَا يَمْلِكُنَّ لَأَنفُسِهِنَّ شَيْئًا ، وَإِنَّكُمْ إِنَّمَا أَخْذُتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ ، وَاسْتَحْلِلُتُمْ فِرْوَجَهُنَّ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ))

عورتوں کے ساتھ اچھا برداشت کرنے کے ہمیشہ پابند رہو، کیونکہ وہ تمہارے پاس قید ہیں اور اپنے معاملات خود نہیں چلا سکتیں، تم نے ان کو اللہ کی امانت کے طور پر حاصل کیا ہے اور اللہ کے کلمات کے ذریعے

رسول اکرم ﷺ کی 125 صیحتیں

ان کو اپنے لیے جائز و حلال کیا ہے۔

((فَاعْقِلُوا إِيَّاهَا النَّاسُ قَوْلِي ، فَإِنِّي قَدْ بَلَغَ ، وَقَدْ تَرَكْتَ فِيمَكُمْ
مَا أَنْ اعْتَصِمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضْلُلُوا أَبَدًا ، امْرًا بَيْنَا ، كِتَابُ اللَّهِ
وَسَنَةُ نَبِيِّهِ))

لوگو! میری بات سمجھو! میں تم میں ایسی چیز چھوڑ کر جارہا ہوں کہ اگر تم
نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو تم گمراہ نہ ہو گے..... وہ چیز کتاب اللہ
اور میری سنت ہے۔

((إِيَّاهَا النَّاسُ اسْمَعُوا قَوْلِي ، وَاعْقِلُوهُ ، تَعْلَمُنَ اَنَّ كُلَّ مُسْلِمٍ
اَخَ الْمُسْلِمٍ ، وَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ اخْوَةٌ فَلَا يَحِلُّ لَأَمْرِي مِنْ اخْيَهِ
اَلَا مَا اعْطَاهُ مِنْ طَيِّبٍ نَفْسٍ مِنْهُ ، فَلَا تَظْلِمُنَ اَنْفُسَكُمْ))

لوگو! میری بات سنو! اور خوب سمجھو! ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی
ہے اور سب مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں لہذا
کسی آدمی کے لیے اپنے بھائی کا مال حلال نہیں سوائے اس کے وہ اپنے
نفس کی خوشی سے دے، پس تم اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔

((أَللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ؟ أَللَّهُمَّ فَاشْهُدْ ، أَللَّهُمَّ فَاشْهُدْ ، أَللَّهُمَّ
فَاشْهُدْ))

اے اللہ کیا میں نے تیرے پیغام کا حق ادا کر دیا؟ اب، اللہ پس تو گواہ
رہنا، اے اللہ پس تو گواہ رہنا، اے اللہ پس تو گواہ رہنا۔

(سیرت ابن حشام جلد ۲/ ۲۵۱، ۲۵۲)

رسول اکرم ﷺ کی 125 وصیتیں

بہتر ہے کہ عربی عبارت کے علاوہ صرف اردو میں پورے تسلسل کے ساتھ آپ ایک بار پھر اس کا مطالعہ کریں تاکہ آپ اس کے مندرجات سے کما حق، استفادہ کر سکیں۔

اللہ تعالیٰ کی حمد و شناکے بعد آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا.....

لوگو! میری بات سنو! شاید کہ اس سال کے بعد اس مقام پر میں تم سے کبھی نہیں مل سکوں گا۔ لوگو! تمہارے خون اور تمہارے اموال ایک دوسرے پر ایسے حرام ہیں جس طرح آج کے اس دن کی اور اس مہینے کی حرمت ہے، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے جاملو، اور تم عنقریب اپنے رب سے ملو گے، پس وہ تم سے تمہارے اعمال کے متعلق پوچھھے گا، میں نے (آپ تک) یہ بات پہنچا دی، لہذا جس کے پاس کسی کی امانت ہو وہ امانت اس کے مالک تک پہنچا دے، جاہلیت کے تمام سود باطل کر دیے گئے، البتہ اصل رأس المال لے سکتے ہو، تاکہ نہ تم دوسروں پر ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم ہو۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ سود باطل ہے، عباس بن عبدالمطلب کا سود بھی باطل ہے۔ (حضرت عباس رض اسلام لانے سے پہلے سودی کا رو بار کرتے تھے، بہت سے لوگوں کے ذمہ ان کا سود باقی تھا آپ ﷺ نے اپنے پچھا کا تمام سود باطل قرار دے دیا)

زمانہ جاہلیت کے تمام خون آج سے باطل کر دیے گئے ہیں، سب سے پہلے میں (اپنے ہی خاندان کے ایک فرد) ربیعہ بن الحارث بن عبدالمطلب کے بیٹے کا خون معاف کرتا ہوں۔

رسول اکرم علیہ السلام کی 125 صیغہ میں ہے

لوگو! شیطان اس بات سے اب مایوس ہو چکا ہے کہ تمہاری اس سرز میں میں اس کی عبادت کی جائے لیکن عبادت کے علاوہ دوسرے چھوٹے اعمال میں اگر اس کی پیروی کی گئی تو وہ اس پر بھی راضی رہے گا، لہذا اپنے دین کے سلسلہ میں اس پرچتے رہنا۔

لوگو! نبی (مہینوں کو آگے پیچھے کر لینا) کفر میں زیادتی کا سبب ہے اس کے ذریعے کافر مزید گمراہ ہوتے ہیں، وہ ایک سال حرام مہینوں کو حلال کر لیتے اور دوسرے سال انہی کو حرام قرار دے دیتے تھے تاکہ اس طرح وہ اشهر حرم کی گفتگو پوری کریں، چنانچہ وہ ان مہینوں کو حلال کر دیتے تھے جن کو اللہ نے حرام کیا ہے اور جن مہینوں کو اللہ نے حلال کیا ہے ان کو حرام قرار دیتے تھے۔ لیکن اب زمانہ اپنی اس ابتدائی حالت پر لوٹ آیا ہے جس پر وہ اس دن تھا جس دن اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا تھا، اللہ کے ہاں سال کے پارہ مہینے ہیں، ان میں چار حرمت والے ہیں، تین تو مسلسل ہیں (یعنی ذی قعده، ذی الحجہ، محرم) اور ایک ماہ رجب ہے جس کا قبلہ مضر خاص احترام کرتا ہے جو جمادی الثانیہ اور شعبان کے درمیان واقع ہے۔

لوگو! تمہاری عورتوں پر تمہارے کچھ حقوق ہیں اور اسی طرح تم پر ان کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ تمہارا ان پر یہ حق ہے کہ وہ کسی ایسے آدمی کو تمہارے بستر پر نہ لیٹھنے دیں جسے تم پسند نہ کرتے ہو اور یہ کہ وہ کھلی بے حیاتی کا کوئی کام نہ کریں لیکن اگر وہ کریں تو اللہ نے تم اس بات کی اجازت دی ہے کہ تم ان کی سونے کی جگہ کو

رسول اکرم ﷺ کی 125 وصیتیں
اپنے سے الگ کر دو (اگر وہ پھر بھی باز نہ آئیں تو) پھر تمہیں اجازت ہے کہ تم ان کو ہلکی مار مارو، جس سے بدن پر نشان نہ پڑیں، اگر وہ باز آگئیں تو حسب دستور ان کا کھانا اور کپڑا تمہارے ذمہ ہے۔

عورتوں کے ساتھ اچھا برداو کرنے کے ہمیشہ پابند رہو، کیونکہ وہ تمہارے پاس قید ہیں اور اپنے معاملات خود نہیں چلا سکتیں، تم نے ان کو اللہ کی امانت کے طور پر حاصل کیا ہے اور اللہ کے کلمات کے ذریعے ان کو اپنے لیے جائز و حلال کیا ہے۔

لوگو! میری بات سمجھو! میں تم میں ایسی چیز چھوڑ کر جارہا ہوں کہ اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو تم گمراہ نہ ہو گے..... وہ چیز کتاب اللہ اور میری سنت ہے۔

لوگو! میری بات سنو! اور خوب سمجھ لو! ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور سب مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں لہذا کسی آدمی کے لیے اپنے بھائی کا مال حلال نہیں سوائے اس کے وہ اپنے نفس کی خوشی سے دے، پس تم اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔“

(سریت ابن حشام جلد ۲/ ۲۵۱، ۲۵۲)

آخری باکمال وصیت ﷺ

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، آخر حضرت ﷺ کے بہت ہی پیارے اور لاڈلے صحابی تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ..... جب آخر حضرت ﷺ نے مجھے یہیں کی

رسول اکرم ﷺ کی 125 وصیتیں
طرف (گورنر بنا کر) بھیجا تو آپ مجھے رخصت کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے باہر تک تشریف لائے.....

((خَرَجَ مَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوْصِيهُ وَمَعَادُ رَاكِبٍ وَرَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِيْ تَحْتَ رَاحِلَتِهِ فَلَمَّا قَرَأَ قَالَ يَا مَعَادُ إِنَّكَ
عَسَى أَنْ لَا تَلْقَانِي بَعْدَ غَامِيْ هَذَا أَوْ لَعْلَكَ أَنْ تَمُرَّ بِمَسْجِدٍ
هَذَا أَوْ قَبْرٍ هَذَا

(منڈ احمد جلد 8 حدیث: 22113)

اس وقت آپ ﷺ مجھے وصیت فرماتے ہے تھے میں سواری پر سوار تھا اور رسول اکرم ﷺ میرے ساتھ ساتھ پیدل چل رہے تھے جب آپ وصیت فرمانے سے فارغ ہوئے تو فرمایا: اے معاذ! بہت ممکن ہے کہ آج کے بعد تم مجھ سے نہ مل سکو، یا یہ فرمایا کہ اے معاذ! آئندہ تم میری اس مسجد میں تو آؤ گے (مگر مجھے نہ پاؤ گے) یا یوں فرمایا: آئندہ تم میری قبر پر ہی آؤ گے پھر مجھے چند وصیتیں مزید فرمائیں۔

یعنی رسول اقدس ﷺ نے آخری دور میں ان کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا، یہ اپنی سواری پر سوار تھے، رسول اللہ ﷺ ان کے ساتھ پیدل چل رہے تھے اور آپ ﷺ کی سواری ساتھ تھی انہوں نے کہا: یا رسول اللہ ﷺ! یا مجھے اجازت دیجئے کہ میں اتر جاؤں، یا آ سوار ہو جائیے، فرمایا شتم اترو گے، نہ میں سوار ہوں گا، تمہار کیا حرج ہے اگر اللہ کے راستے کا غبار میرے قدموں کو لگ جائے، تمہارا کیا

رسول اکرم ﷺ کی 125 صیحتیں

نقصان ہے اور ایک بات آخری ان سے یہ کہی تھی اور بہت سی باتیں کہیں راستے میں، ایک بات یہ کہی تھی کہ معافاً ہو سکتا ہے کہ تم آج کے بعد مجھے نہیں دیکھو گے تم میری قبر پر گزرو گے، مجھے نہیں دیکھو گے (چنانچہ ایسا ہی ہوا) آنحضرت ﷺ نے انہی معافاً کو چند نصیحتیں فرمائیں، اور ان میں سے ایک نصیحت یہ تھی کہ اپنی زبان کی حفاظت کیا کرو، حضرت معافاً کرنے کرنے لگے: وَهُلْ نُوَاخِذُ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ؟ قالَ ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا مَعَادُ، وَهُلْ يَكْبُثُ النَّاسَ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ قَالَ عَلَى مَنَاجِرِهِمْ إِلَّا حَصَابَيْدُ الْمُسَتَّهِمْ۔

..... منہاج الدین، جلد ۸، حدیث: 22129

میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! کیا زبان سے کہی گئی ہمارے باتوں پر بھی موآخذہ ہو گا؟ آپ ﷺ نے شفقت سے فرمایا: تیری ماں تجھے کھوئے! بہت سے لوگوں کو زبان سے کہی گئی باتوں کی وجہ سے ہی تو دوزخ میں اوندھے منہ ڈالا جائے گا۔

میرے بھائیو! جو عمل کرو یہ دیکھو کہ میرے رسول ﷺ کی ناراضگی تو نہیں ہے اس میں، حضور اقدس ﷺ اس سے ناراض تو نہیں ہوں گے، یہ دیکھو لیا کرو۔ داڑھی منڈواتے ہو تو بھی دیکھو لیا کرو، کپڑا پہننے ہو تو بھی دیکھو لیا کرو، کوئی بات کرتے ہو تو بھی دیکھو لیا کرو، کوئی جھکڑا کرتے ہو تو بھی دیکھو لیا کرو، ایک ایک چیز دیکھو لیا کرو، کہ رسول اللہ ﷺ جن کی پارگاہ میں ہمیں شفاعت کے لیے حاضر ہونا ہے وہ ناراض تو نہیں ہوں گے۔

رسول اکرم ﷺ کی 125 وصیتیں

اُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي

پھر فرمایا
 کیا مبارک رسول اللہ ﷺ کا طرز تکلم تھا۔ آپ امت کے لیے ایسی
 نصیحتیں فرمائیں کہ امت اپنے دل کی گہرائی کے ساتھ ان کو سنے اور سن کر انہیں
 محفوظ کر لے، فرمایا؛ معاذ! میں تمہارے لیے وہی چیز پسند کرتا ہوں جو اپنے لیے
 پسند کرتا ہوں۔ اور وہ یہ کہ ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھنا نہ بھولنا.....
 ((اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادِكَ۔))

مندرجہ اصلاحی مواعظ، جلد دوم، صفحہ 68]]

محسن انسانیت، شرف آدمیت، آقائے کریم، محمد رسول اللہ ﷺ اپنے
 پیارے اور جلیل القدر صحابی سے کس قدر پیارے مجھے میں مخاطب تھے آئیے!
 ہم ذرا نیہ توجہ کریں کہ آقا علیہ السلام اپنے باکمال شاگرد کو آخری وصیت کیا
 فرمائے ہیں

((أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ آخِرُ مَا أَوْصَانِي بِهِ
 رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ وَضَعْتُ رِجْلِي فِي الْفَوْزِ أَنْ قَالَ أَحْسِنْ
 خُلُقَكَ لِلنَّاسِ يَا مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ))

سیدنا معاذ بن جبل رض فرماتے ہیں کہ [میں کے لیے گورنر بنا کر روانہ
 کرتے وقت] رسول کریم ﷺ نے مجھے سب سے آخری وصیت اس وقت فرمائی
 جب کہ میں اپنا پاؤں سواری کی رکاب میں رکھ چکا تھا ارشاد فرمایا: اے
 میرے پیارے معاذ! لوگوں سے حسن اخلاق سے پیش آنا۔

تمت بعون الودود

من ابی طلحة محمد اظہار الحسن محمود

ویتقبل اللہ منی المعبود

وَ أَخْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ
 وَ أَجْعَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ
 خَلِقْتَ مُبِرًا مِنْ كُلِّ عَيْنٍ
 كَانَكَ قَدْ خَلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ

ترجمہ:

جہاں میں ان سا چہرہ ہے نہ ہی خندہ جبیں کوئی
 ابھی تک جن سکیں نہ عورتیں ان سا حسین کوئی
 نہیں رکھی ہے قدرت نے میرے آقا کی تجوہ میں
 جو چاہا آپ نے مولا وہ رکھا ہے سمجھی تجوہ میں

﴿حضرت حسان بن ثابت ﷺ﴾

مراجع و مصادر

تفسیر ابن کثیر۔ ابو الفداء، اسماعیل ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ

تفسیر الدر المختار۔ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ

صحیح بخاری۔ محمد بن اسماعیل بخاری، رحمۃ اللہ علیہ

صحیح مسلم۔ مسلم بن الحجاج القشیری

جامع الترمذی۔ ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ

- سنن ابی داؤد۔ ابو داؤد سلیمان بن اشعف رحمۃ اللہ علیہ
- سنن النسائی۔ احمد بن شعیب نسائی رحمۃ اللہ علیہ
- سنن ابین ماجہ۔ قدیمی کتب خانہ کراچی
- شاہن ترمذی۔ ابو عیسیٰ محمد بن سورۃ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ
- مسند احمد۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ
- موطأ امام مالک، امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ
- مکملۃ المصالح۔ محمد بن عبد اللہ تبریزی رحمۃ اللہ علیہ
- مظاہر حق جدید مولانا نواب قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ
- المستدرک علی الحججی۔ محمد بن عبد اللہ حاکم
- کشف الباری۔ مولانا سلیم اللہ خان صاحب دامت برکاتہم ، مکتبہ فاروقیہ کراچی
- فتح الباری۔ ابن حجر احمد بن علی عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ
- عون المعبود۔ شمس الحق عظیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ

